

خوراک اور مشروبات

FOOD AND BEVERAGES

پنیتالیس گھنٹوں کا تربیتی پروگرام - شعبہ مہمان نوازی

45 Hours Training Program - Hospitality Sector

تربیتی و تعلیمی مواد

TRAINING – LEARNING MATERIAL



پراجیکٹ کے نفاذ کی یونٹ

Project Implementation Unit

شعبہ میکانٹرونک، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی، پشاور

Department of Mechatronics, University of Engineering and Technology, Peshawar

ماڈیول 1: خوراک و مشروبات کی خدمات میں صحت اور حفاظت

- تعارف
- ماڈیول کے مقاصد
- خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں حفاظت اور صفائی کے معیارات
 - کام کی جگہ پر خطرات
 - عمومی حفاظتی طریقے اور احتیاطی تدابیر
 - باوجودی خانے میں حادثات
 - فرسٹ ایڈ اور فائر سیفٹی
 - HACCP اصول
 - کام کی جگہ کی صفائی اور ذاتی صفائی
- خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں ذاتی حفاظتی آلات (PPE)
 - تعارف
 - کپڑے
 - آنکھوں کی حفاظت
 - ہاتھوں کی حفاظت
 - بچھیاں
 - سماعت کی حفاظت
 - ریپریٹرز
- OH&S باسپ یٹیلیٹی آپریشنز میں
 - تعارف
 - OH&S کلنگ اور پیٹیسری میں
 - مہمان نوازی کے شعبوں میں OH&S
 - فرنٹ آفس میں OH&S
 - فوڈ اینڈ بیورنچ سروس میں OH&S
 - ہاؤس کیپنگ میں OH&S
 - عمومی حفاظتی تقاضے
 - حادثات کی رپورٹس
- مہمان نوازی میں آگ اور ہنگامی طریقہ کار

- کام کی جگہ پر ہنگامی طریقہ کار
- ہنگامی صورتحال میں اقدامات
- آگ کی حفاظت
- بم کے خطرے کے طریقہ کار
- انخلا کے طریقہ کار
- ورک پلیس سکیورٹی کے طریقہ کار

- مہمان نوازی کا دائرہ اور ویٹرز کا پیشہ
- پیشہ کی تعریف: ویٹر/سروور
- ویٹر کے فرائض اور ذمہ داریاں
- ایک عظیم ویٹر کی اعلیٰ خصوصیات
- لرننگ یونٹ 1.1.1: حفاظت کا تعارف
- لرننگ یونٹ 1.1.2: ذاتی حفاظتی طریقے
- لرننگ یونٹ 1.1.3: خطرے کی آگاہی
- لرننگ یونٹ 1.1.4: ہنگامی تیاری
- لرننگ یونٹ 1.1.5: بنیادی فرسٹ ایڈ آگاہی
- خوراک اور شراب کی حفاظت کے لیے عملی پونٹس (PU)
- ٹرینر کا کردار
- تشخیصی معیار

1.2 ماڈیول: شفٹ کے دوران پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھیں (خوراک و مشروبات کی خدمات)

- ماڈیول کے مقاصد
- لرننگ یونٹ 1.2.1: پری ٹیسٹ ٹریننگ ٹیسٹ
- لرننگ یونٹ 1.2.2: F&B میں پیشہ ورانہ مہارت کا تعارف
- لرننگ یونٹ 1.2.3: ذاتی صفائی اور صفائی کے معیارات
- پیشہ ورانہ مہارت اور ذاتی خصوصیات
- پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف
- پیشہ ورانہ مہارت کی اہم خصوصیات
- لرننگ یونٹ 1.2.4: کام کی جگہ کی اخلاقیات اور آداب

- ویٹرز کے لیے کیا کرنا اور نہ کرنا (محرمت میں پیشہ ورانہ مہارت)
- لرننگ پونٹ 1.2.5: ڈاٹر مواصلاتی مہارتیں
 - موثر مواصلاتی چکر (F&B سیاق و سباق)
 - صارفین سے کیسے نمٹیں - مہمان نوازی میں کسٹمر سروس
- ویٹرز سروس لیبلز
- ویٹر/سرور کے لیے ضروری مہارتیں
- لرننگ پونٹ 1.2.6: ریسٹورانوں میں وقت کا انتظام اور دباؤ سنبھالنا
- لرننگ پونٹ 1.2.7: تنظیمی ثقافت کو سمجھنا
- لرننگ پونٹ 1.2.8: مہمان مرکزیت کے رویے کی اہمیت
- عملی سرگرمیاں (PU) انضمام
- تشخیصی معیار

ماڈیول 2: بین الاقوامی مہارتوں کی ترقی

- ماڈیول کے مقاصد
- لرننگ پونٹ 2.1: مہمان نوازی کی صنعت میں مواصلاتی مہارتوں کو فروغ دینا اور استعمال کرنا
- عملی پونٹس (PUs)
 - عملی پونٹ 2.1: بین الاقوامی مواصلات کی بنیادیں
 - عملی پونٹ 2.2: زبانی اور غیر زبانی مواصلات
 - عملی پونٹ 2.3: فعال سننے کی مہارتیں
 - عملی پونٹ 2.4: ٹیم ورک اور تعاون، تنازعات کا حل اور فیڈبیک
 - عملی پونٹ 2.5: تعامل میں جذباتی ذہانت
 - عملی پونٹ 2.6: اعتماد کی تربیت
 - عملی پونٹ 2.7: کام کی جگہ پر بین الاقوامی مہارتیں
 - عملی پونٹ 2.8: جائزہ اور ذاتی عملی منصوبہ
- ٹرینرز نوٹس
- تشخیصی معیار

ماڈیول 3: کھانے اور مشروبات کی سروس کے لیے سروس اور مہمانوں کے علاقوں کی تیاری اور صفائی

- ماڈیول کے مقاصد
- فوڈ اینڈ بیورج سروس کے لیے سروس اور مہمان علاقوں کی تیاری اور صفائی کریں
 - تعارف
 - کھانا و شراب کی خدمت (میز این پلیس) کے لیے تیاری
 - ٹیبل سیٹنگ
- خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں میل سروس کے طریقہ کار
 - ناشتہ کی سروس
 - لچ سروس
 - ڈنر سروس
 - کلیئرنگ کے طریقہ کار
- ٹرینر نوٹس
- تشخیصی معیار
- لرننگ یونٹس (LUs)
 - لرننگ یونٹ 3.1: مہمانوں کا استقبال کریں اور آرڈرز لیں
 - لرننگ یونٹ 3.2: ٹھنڈے مشروبات مناسب طریقوں/آلات کے ساتھ پیش کریں
 - لرننگ یونٹ 3.3: آؤٹ لیٹ کاؤنٹر اور نیک اوے سروس فراہم کرنا
 - لرننگ یونٹ 3.4: مہمانوں سے محفوظ ادائیگی
 - لرننگ یونٹ 3.5: آؤٹ لیٹ کے کپتان کی حمایت کریں
- مینو ناچ اور کسٹمر کی معلومات
- خوراک اور مشروبات پیش کریں – مینو کے مقصد اور اصول
- عملی یونٹس (PUs)
 - ٹرینر نوٹس
 - تشخیصی معیار

ماڈیول 4: کاروری/بوفے سروس فراہم کریں

- ماڈیول کے مقاصد
- لرننگ یونٹس (LUs)
- لرننگ یونٹ 4.1: کاروری/بوفے ڈسپلے کی تیاری اور دیکھ بھال
- لرننگ یونٹ 4.2: کاروری/بوفے میں مہمانوں کی خدمت اور مدد کریں
- عملی یونٹس (PUs)
- عملی یونٹ 4.1: کاروری اور بوفے سروس کے انداز کو سمجھنا
- عملی یونٹ 4.2: بوفے/کاروری آلات اور ڈسپلے یونٹس کی تیاری
- عملی یونٹ 4.3: بوفے ٹیبلز کی ترتیب اور کھانے کی پیشکش
- عملی یونٹ 4.4: محفوظ خوراک سنبھالنا اور درجہ حرارت کنٹرول
- عملی یونٹ 4.5: حصہ کنٹرول اور کتدہ کاری کی تکنیکیں
- عملی یونٹ 4.6: مہمانوں کے بہاؤ کا انتظام اور قطار بینڈلنگ
- عملی یونٹ 4.7: مہمانوں کی خدمت شائستگی اور مؤثریت کے ساتھ کرنا
- عملی یونٹ 4.8: سروس کے دوران صفائی برقرار رکھنا
- عملی یونٹ 4.9: خوراک کی فراہمی اور ذخائر کی سطح کی نگرانی
- عملی یونٹ 4.10: بوفے/کاروری ایریا کو صاف کرنا اور ری سیٹ کرنا
- عملی یونٹ 4.11: مہمانوں کی درخواستوں اور غذائی ضروریات سے نمٹنا
- عملی یونٹ 4.12: اختتامی طریقہ کار اور سروس کے بعد صفائی
- ٹرینر نوٹس
- تشخیصی معیار

ماڈیول 5: مؤثر مہمان خدمات فراہم کرنا

- ماڈیول کے مقاصد
- لرننگ یونٹس (LUs)
- لرننگ یونٹ 5.1: فوڈ آؤٹ لیٹ کے مہمانوں کے لیے مؤثر اور کارگر سروس فراہم کرنا
- لرننگ یونٹ 5.2: فون کالز کو سنبھالنا
- لرننگ یونٹ 5.3: مہمانوں کی توقعات پر پورا اتنا اور ان سے بڑھ کر
- لرننگ یونٹ 5.4: مہمانوں کی شکایات اور تعریفوں سے نمٹیں
- مہمانوں کا استقبال اور بیٹھنے کی جگہ

- عملی یونٹس (PUs)
- ٹرینر نوٹس
- تشخیصی معیار

ماڈیول 6: پائیداری اور کاروباری ترقی

- ماڈیول کے مقاصد
- لرننگ یونٹس (LUs)
 - لرننگ یونٹ 6.1: مہمانوں کے تعلقات کا انتظام
 - لرننگ یونٹ 6.2: تعاون اور مشغولیت کے لیے سوشل میڈیا ٹولز کا استعمال
 - انٹرپرائزور شپ سیکشن
 - ماحولیاتی سیکشن
 - لرننگ یونٹ 6.3: تجزیہ کے بعد تربیتی امتحان
 - لرننگ یونٹ 6.4: سرٹیفیکیشن تقریب
- عملی یونٹس (PUs)
 - عملی یونٹ 6.1: پائیدار کاروباری طریقوں کا تعارف
 - عملی یونٹ 6.2: ماحولیاتی اثرات کی شناخت اور کمی
 - عملی یونٹ 6.3: فضلہ کا انتظام اور وسائل کی کارکردگی
 - عملی یونٹ 6.4: گرین سپلائی چین اور خریداری کی حکمت عملیاں
 - عملی یونٹ 6.5: گروپ ٹاسک اور اسائنمنٹ
- ٹرینر نوٹس
- تشخیصی معیار

ماڈیول 1: خوراک و مشروبات کی خدمات میں صحت اور حفاظت

تعارف

فوڈ اینڈ بیوریج (ایف اینڈ بی) سروس مہمان نوازی کی صنعت کے سب سے متحرک شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ریسٹوران، کیفے، ہوٹل، کیریئرنگ سروسز، ضیافتیں، اور ایونٹ ڈائمنگ شامل ہیں۔ ایسے ماحول میں، حفاظت صرف عملے کو چوڑوں سے بچانے کے بارے میں نہیں بلکہ صارفین کی حفاظت، صحت مند کھانے کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے، اور کاروبار کی ساکھ برقرار رکھنے کے بارے میں بھی ہے۔

ایک حفاظتی غلطی جیسے ویٹر کا گرم سوپ گرا دینا، شیف سبزیاں بناتے ہوئے انگلی کاٹنا، یا مہمان کا گیلی فرش پر پھسل جانا، اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، قانونی نتائج کا باعث بنتا ہے، اور جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا، حفاظت اور صفائی کو ہر عمل، ہر شفٹ، اور کام کی جگہ کے ہر کونے میں شامل کیا جانا چاہیے۔

یہ ماڈیول بنیادی حفاظتی تصورات، ذاتی طریقوں، خطرے سے آگاہی، ہنگامی طریقہ کار، اور ابتدائی طبی امداد کا تعارف کراتا ہے جنہیں ہر F&B پیشہ ور کو لائو سروس میں قدم رکھنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔

ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

1. فوڈ سروس کے ماحول میں حفاظت کی اہمیت کو سمجھیں۔
2. کھانے اور مشروبات کی سروس میں درکار ذاتی صفائی اور گرومنگ کے معیار پر عمل کریں۔
3. باورچی خانے اور کھانے کے علاقوں میں عام خطرات کو پہچانیں۔
4. ریسٹورانوں/ہوٹلوں میں ہنگامی تیاری کے طریقہ کار لاگو کریں۔
5. فوڈ سروس سیننگلز سے متعلق بنیادی فرسٹ ایڈ کے بارے میں آگاہی کا مظاہرہ کریں۔

خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں حفاظت

اور صفائی کے معیارات

ایک ماہر پیشہ ور کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے:

- کام کی جگہ پر خطرات کی نشاندہی کریں۔



- عمومی حفاظتی اور فرسٹ ایڈ کے طریقے اپنائیں۔
- آگ سے حفاظت کے قواعد و ضوابط کی پیروی کریں۔
- خطرے کے تجزیہ اور اہم کنٹرول پوائنٹس (HACCP) کے اصولوں کو سمجھیں۔
- کام کی جگہ کی صفائی اور ذاتی صفائی کو ہر وقت برقرار رکھیں۔

1. کام کی جگہ پر خطرات

بیان:

کام کی جگہ کے خطرات وہ خطرات یا حالات میں جو نقصان، چوٹ یا بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ کچن اور کھانے پینے کی سروس ایریاز میں خطرات واضح نظر آسکتے ہیں (تیز چاقو، پھسلن والے فرش) یا پچھپے ہوئے (آلودہ خوراک، کیمیکل کی نمائش)۔

ہا سپیٹیلیٹی انڈسٹری کے خطرات کی مثالیں:

- دستی ہینڈلنگ: بھاری ٹرے یا اسٹاک اٹھانا کمر کی چوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔
- پھسلنا، ٹھوکر اور گرنا: گرنا مائع، چکنا فرش، یا ڈھیلے میٹ۔
- ایروگولڈکس: سروس کے دوران خراب پوسچر یا ٹرے اٹھانے سے بار بار دباؤ محسوس کرنا۔
- شور: بلینڈرز، ڈش واشرز، یا بھیڑ بھاڑ والے سروس ایریاز سے۔
- خطرناک مادے: صفائی کی مصنوعات، سینینائٹرز، ایروسول اسپرے۔
- متعدی بیماریاں: جسمانی مائعات سے رابطہ، غلط طریقے سے کھانا سنبھالنا۔
- تشدد/ جارحیت: مہمان ذہنی دباؤ، شراب نوشی، یا کام کی جگہ پر تنازعہ میں ہوں۔
- دباؤ اور تھکن: لمبے اوقات، بے قاعدہ شفٹیں۔
- ہاؤس کیپنگ/ فضلہ تلف کرنے کے مسائل: غلط تلفی کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

مہمان نوازی کے خطرات، اثر کی فوری اور براہ راست ہونے کے لحاظ سے درجہ بندی



- کیڑوں کے کنٹرول کے خطرات: آلودہ خوراک یا فضلہ جو صفائی کو متاثر کرتا ہے۔
- جسمانی خطرات: جلنے، کٹ، شدید گرمی/ سردی، ٹوٹا ہوا شیشہ۔

اہم اصول: کارکنوں کو ہمیشہ سپروائزرز سے محفوظ کام کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور تحریری حفاظتی رہنما اصولوں پر عمل کریں۔

عمومی حفاظتی طریقے اور احتیاطی تدابیر

بیان:

حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ تر حادثات لاپرواہی یا لاعلمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور انہیں آگاہی اور نظم و ضبط سے روکا جا سکتا ہے۔

عمومی رہنما اصول:

- کھیل سے بچیں - شرارت پھولوں کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔
- کبھی بھی منشیات یا شراب کے زیر اثر کام نہ کریں۔
- حرکت کرنے والے اشیاء/آلات (مکسرز، سلاٹرز، ٹرائی) پر دھیان دیں۔
- چلیں، کام کی جگہ پر نہ دوڑیں۔
- ہر وقت پوکس اور مرکوز رہیں۔
- کمر کے دباؤ سے بچنے کے لیے صحیح طریقے سے اٹھائیں۔

سرورنگ سیفٹی - 3 سنہی اصول:

مہمان نوازی کے خطرات کو جسمانی سے نفسیاتی اثرات تک سمجھنا



1. کچن یا ڈائننگ ایریاز میں دوڑیں نہیں۔
2. توجہ مرکوز رکھیں۔ توجہ بنانے اور بھٹکنے کی وجہ سے حادثات پیدا ہوتے ہیں۔
3. سامان کو محفوظ طریقے سے چلائیں۔ بغیر مناسب تربیت کے مشینری کا استعمال نہ کریں۔

3. باورچی خانے میں حادثات

عام قسم کے حادثات:

- کٹ۔ چاقوؤں، ٹوٹے ہوئے شیشے، سلائرز سے۔
- برنز/سکلڈز۔ گرم مائع، اوونز، فریجز سے۔
- گرنا۔ پھسلنے والے فرش یا ناقص صفائی کی وجہ سے۔
- کھچاؤ۔ غلط لفٹنگ یا زیادہ محنت کی وجہ سے۔

حادثات کی وجوہات:

- لاپرواہی۔
- علم کی کمی۔
- طریقہ کار کو نظر انداز کرنا۔
- کھیل کو۔

یاد رکھیں: حادثات خود بخود نہیں ہوتے۔

4. فرسٹ ایڈ اور فائر سیفیٹی

ابتدائی فرسٹ ایڈ کے طریقہ کار:

- صاف کپڑے یا دباؤ سے خون بہنا بند کریں۔
- بہتے پانی کے نیچے ٹھنڈی جلائے۔
- ہنگامی حالات میں پیشہ ورانہ طبی مدد کے لیے کال کریں۔

آگ سے بچاؤ کے طریقہ کار:

- فائر ایگزٹ اور انخلا کے راستوں کو جانیں۔
- فائر ایکسٹنگشزر کو صحیح طریقے سے چلائیں (PASS: کھینچنا، نشانہ لگانا، دباؤ، جھاڑو)۔
- کبھی بھی فائر ایگزٹ کو بند نہ کریں۔
- فوری طور پر خراب برقی آلات کی اطلاع دیں۔

5. HACCP اصول

بیان:

خطرات کا تجزیہ اور اہم کنٹرول پوائنٹس (HACCP) نظام خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ طریقہ ہے۔

HACCP کے اہم اقدامات:

- ممکنہ خوراک کے خطرات کی نشاندہی کریں۔
- اہم مراحل (اسٹوریج، کھانا پکانا، سرونگ) پر خوراک کے ہینڈلنگ کی نگرانی کریں۔
- اگر حفاظتی حدود کی خلاف ورزی ہو تو اصلاحی اقدامات کریں۔
- دستاویزات اور باقاعدہ چیک رکھیں۔

6. کام کی جگہ کی صفائی اور ذاتی صفائی

بیان:

صفائی اور صفائی خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکتی ہے اور مہمانوں کے اعتماد کو یقینی بناتی ہے۔ ناقص صفائی کاروبار کی ساکھ کو راتوں رات تباہ کر سکتی ہے۔

ہدایات:

- ہاتھ بار بار دھوئیں (سروس سے پہلے، ہاتھ روم کے بعد، کچا کھانا سنبھالنے کے بعد)۔
- جہاں ضرورت ہو صاف یونینفارم، ہسپر نیٹس، دستاں پہنیں۔
- ورک سٹیشنز کو صاف ستھرا اور بے ترتیبی سے پاک رکھیں۔
- فضلہ کو بروقت اور صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔
- باقاعدہ صفائی اور معائنے کے ذریعے کیزوں کی وبا سے بچائیں۔

ٹرینر نوٹس

- صحیح طریقے سے اٹھانا، فائر ایکسٹنگشٹر استعمال کرنا، اور چاقو سے بینڈلنگ کا مظاہرہ کریں۔
- کردار ادا کرنے والے ہنگامی حالات (مہمان کا بے ہوش، کچن میں آگ)۔
- HACCP فلو چارٹس اور صفائی کی چیک لسٹ دکھائیں۔

تشخیصی معیار

- علم: خطرات، HACCP، حفاظتی طریقہ کار کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: درست صفائی، محفوظ آلات کے استعمال، اور فرسٹ ایڈ کی بنیادی باتیں ظاہر کرتا ہے۔
- رویہ: ذمہ داری، توجہ، اور حفاظت کے شعور کا مظاہرہ کرتا ہے۔

حفاظتی نشانات کا استعمال

- حفاظتی نشانات وسیع پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کارکنوں اور زائرین کو پھسلنے والی سطح کی اطلاع دی جاسکے یا انہیں خطرناک علاقوں میں داخل ہونے سے روکا جاسکے۔ احتیاط، گیلیا فرسٹ
- احتیاط تیزابی مائع
 - ممنوعہ علامات
 - کوئی رسائی نہیں – صرف عملہ
 - خطرہ کوئی رسائی نہیں – بائی وو لٹیج ہدایت
 - ڈس اسامبلی سے پہلے پاور منقطع کریں۔ معلومات
 - فائر ایکٹ
 - فرسٹ ایڈ کٹ

آگ سے بچاؤ کے طریقہ کار


آگ صرف اسی وقت ممکن ہے جب قابل اشتعال مواد، آکسیجن اور حرارت موجود ہو۔ تاہم، احتیاط کی کمی، آلات کی خرابی، یا سادہ انسانی غلطی آگنیشن کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں آتش گیر مواد کے قریب، بینڈلنگ یا ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ فائر سیفٹی احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں۔

آتش گیر مائع اور متعلقہ آلات

آتش گیر مائع کی نوعیت انہیں آگ لگنے کے لیے بہت زیادہ حساس بنا دیتی ہے۔ لہذا، درج ذیل ذخیرہ اندوزی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں:

- تمام آتش گیر مائع کے کنٹینرز منظور شدہ قسم کے ہونے چاہئیں اور واضح طور پر نشان زد ہونے چاہئیں۔
- تمام کنٹینرز میں محفوظ کیپنگ ڈبوائسز ہونی چاہئیں۔
- کھلی آگ یا جلتی ہوئی سگریٹ کسی بھی مائع گیس ذخیرہ کرنے والے علاقے کے اندر یا اس کے قریب ممنوع ہونی چاہیے۔
- جہاں ڈرمز کو کنٹینرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہاں نلکے اور ڈرپ ٹرے ہونا ضروری ہے۔
- ٹرانسپورٹیشن صرف اس وقت ہونی چاہیے جب کنٹینرز سیل کیے گئے ہوں۔
- تمام خالی کنٹینرز کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔
- رساو کو صاف کرنا یا ریت سے ڈھانپنا ضروری ہے۔
- کوئی بھی آگ جس کے لیے قابل اشتعال مائع کی ضرورت ہو، اسے ذخیرہ شدہ مائع کی طرح بنیادی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔
- تمام ٹینک یا آلات کے لیبلنگ کی اطلاع دی جانی چاہیے اور پھر فوراً مرمت کی جانی چاہیے۔
- تمام فضلہ جو آتش گیر ہوتے ہیں، انہیں منظور شدہ کنٹینرز میں ٹھکانے لگانے کے لیے رکھا جانا چاہیے اور میونسپل فضلہ کے ضوابط کے مطابق مناسب جگہ پر لے جانا چاہیے۔

آتش گیر مائع کا ذخیرہ اور بینڈنگ کے حفاظتی اقدامات



کام پر صفائی اور حفاظت

چیک لسٹ:



ذاتی حفاظتی سامان

باورچی خانے میں مکینیکل خطرات سے آگاہ ہونے کے علاوہ، یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح حفاظتی لباس اور سامان استعمال کریں۔ ذاتی حفاظتی سامان (PPE) ہمنا حادثات کو روک سکتا ہے۔ ایک کارکن کے طور پر، آپ درج ذیل امور کے ذمہ دار ہیں:

یقینی بنانا کہ آپ کا یونیفارم اچھی طرح فٹ ہو۔

تمام یونیفارمز کو صاف اور اچھی حالت میں رکھنا، نہ کہ پھٹے ہوئے یا خراب استعمال شدہ ہوں۔

یقینی بنائیں کہ آستینیں کلائی پر بٹن رکھی جائیں، اوورآل اور پتلون کے کف ختم کیے جائیں، اور پتلون کی ٹانگیں اتنی لمبی ہوں کہ باہر سے جوتوں میں لٹکی جاسکے۔

ضرورت پڑنے پر مخصوص ذاتی حفاظتی سامان جیسے چشمہ، سماعت کی حفاظت، دستانے، اور ایپرن پہننا۔

اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، آپ کی ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کی فہرست میں درج ذیل اشیاء شامل ہونی چاہئیں۔

خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں ذاتی حفاظتی آلات (PPE)

تعارف

ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE) کارکنوں کو گرمی، تیز اوزار، کیمیکلز، شور اور آلودگی جیسے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ با سیٹیٹیٹیٹی اور فوڈ سروس میں، حفاظتی اور حفظان صحت کی پابندی کے لیے PPE لازمی ہے۔ کارکنوں کو پوٹوں سے بچاؤ اور خوراک کی حفاظت کے لیے پی پی ای صحیح طریقے سے پہننا اور برقرار رکھنا ضروری ہے۔

1. کپڑے

بیان:

کپڑے فوڈ ہینڈلز کے لیے پہلی حفاظتی لائن ہیں۔ یہ عملی، آگ سے محفوظ اور صحت مند ہونا چاہیے تاکہ خطرات کم ہوں۔

ہدایات:

- اچھی طرح فنڈ پیئٹ اور جیکٹ پہنیں جن کے تمام بٹن بند ہوں۔
- آستینیں قریب سے فٹ ہونے چاہئیں تاکہ گیس برنز پر آگ نہ لگے۔
- بالوں کو ہیئر نیٹس، ٹوپی یا دیگر منظور شدہ طریقوں سے باندھنا ضروری ہے۔

- ایپرنز غیر آتش گیر، شعلہ مزاحم مواد سے بنے ہونے چاہئیں جو حرارت میں نہیں پگھلتے۔

مثال کے طور پر: گیس کے شعلے پر ڈھیلی آستین آگ لگا سکتی ہے — صحیح طریقے سے فٹ ہونے والی جیکٹس اس سے بچ جاتی ہیں۔

2. آنکھوں کی حفاظت

بیان:

آنکھیں اڑتے ہوئے ذرات یا کیمیائی چھینٹوں سے شدید متاثر ہوتی ہیں۔

ہدایات:

- جب بھی چوٹ کا خطرہ ہو تو حفاظتی چشمہ یا ماسک پہنیں۔
- ضروری جب:
 - بینڈ سا سے ہڈی کاٹنا۔
 - ایلے زنگ آلود صفائی کے اجزاء استعمال کر رہے ہیں جو چھینٹے پھونک سکتے ہیں۔

3. ہاتھوں کی حفاظت

بیان:

ہاتھ تیز اوزاروں، گرم سطحوں اور صفائی کے کیمیکلز کے سامنے آتے ہیں۔ مناسب دستاں استعمال کرنے سے جلن، کٹاؤ یا الرجی سے بچا جا سکتا ہے۔

ہدایات:

- لیٹیکس دستاں: کھانے کی تیاری کے دوران الرجی کے خطرات کی وجہ سے پرہیز کریں۔
- مصنوعی/دھاتل دستاں: کھانے کو سنبھالنے کے لیے پسندیدہ۔
- میٹال دستاں: گوشت کے سلائسز کی صفائی جیسے کاموں کے لیے۔
- موٹے پلاسٹک/ربرڈ کے دستاں: صفائی کے کیمیکلز کو سنبھالنے کے لیے۔

نوٹ: ہمیشہ دستاں کے لیبلز کو مواد کی قسم اور الرجی کے خطرات کے لیے چیک کریں۔

4. جوتیاں

بیان:

مناسب جوتے پھسلنے، ٹھوکر کھانے، اور گرنے والی اشیاء یا گرم گرنے سے چوٹوں کو روکتے ہیں۔

ہدایات:

- مضبوط اور معاون ہونا چاہیے۔
- گیلی فوش کے لیے نان سلپ سولز۔
- حفاظت کے لیے بند ٹو اور کلوزڈ ہیپ ڈیزائن۔
- اگر ماحول کی ضرورت ہو تو اسٹیل ٹو جوتے پہنیں۔
- اونچی چمڑے کی ٹاپس گرم چکنائی یا مائع کے رساؤ سے بچاتی ہیں

5. سماعت کی حفاظت

بیان:

اگرچہ کمرشل کچن میں یہ نایاب ہے، لیکن خوراک کی تیاری یا بڑے آپریشنز میں زیادہ شور طویل مدتی سماعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ہدایات:

- زیادہ شور والے ماحول میں منظور شدہ ایئر پلگ یا ایئر مضس استعمال کریں۔
- سماعت کے تحفظ کے آلات کو اچھی حالت میں رکھیں۔

6. دہپہریٹرز

بیان:

دہپہریٹرز خطرناک دھوئیں یا بخارات کے سانس لینے سے بچاتا ہے، خاص طور پر جب مرتکز صفائی کے اجزاء استعمال کیے جائیں۔

ہدایات:

- زیادہ سے زیادہ حفاظت کے لیے اچھی طرح فٹ ہونا چاہیے۔
- دراز، پھاڑ یا ٹوٹے ہوئے حصوں کے لیے باقاعدگی سے معائنہ کریں۔
- فلٹرز کی میعاد ختم ہونے سے پہلے چیک اور تبدیل کرنا ضروری ہے۔
- صرف اچھی حالت میں سامان استعمال کریں—خراب پرزے فوراً تبدیل کریں۔

ٹریسنگ نوٹس

- PPE پہننے کا صحیح طریقہ دکھائیں (ہیسٹرنیس، دستانے، دہپہریٹرز)۔
- ایک فرضی معائنہ کریں جہاں سیکھنے والے ایک فرضی کچن میں PPE کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کریں۔
- حقیقی کیس اسٹڈیز پر بات کریں جہاں PPE کی کمی نے کام کی جگہ پر چوٹیں پیدا کیں۔

تشخیصی معیار

- علم: PPE کی اقسام اور ان کے استعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: عملی سیشنز میں PPE کے درست استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔
- رویہ: مستقل طور پر PPE پہننے میں نظم و ضبط دکھاتا ہے۔

OH&S ہا سپیشلیٹی آپریشنز میں

تعارف

پیشہ ورانہ صحت و حفاظت (OH&S) مہمان نوازی میں نہایت اہم ہے کیونکہ عملہ ایسے ماحول میں کام کرتا ہے جہاں تیز اوزار، گرم سطحیں، کیمیکلز، برقی آلات، بھاری سامان اٹھانا اور مہمانوں کے ساتھ مسلسل رابطے ہوتے ہیں۔ OH&S طریقہ کار کا اطلاق خطرات کو کم کرتا ہے، حادثات کو روکتا ہے، اور ایک محفوظ اور مؤثر کام کی جگہ کو یقینی بناتا ہے۔

محفوظ کام کی جگہ کا فائدہ:

- عملہ - چوڑوں، دباؤ اور بیماری سے بچاؤ۔
- مہمان - آرام اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔
- کاروبار - شہرت، قانونی تعمیل اور پیداواریت کو برقرار رکھنا۔

1. OH&S کلنگ اور پینٹیسری میں

اہم خطرات: سامان، چاقو، آگ، کیمیکلز، جسمانی وضع۔

- صفائی یا دیکھ بھال سے پہلے مشینری کو منقطع کر دیں۔
- چاقوں کو احتیاط سے سنبھالیں؛ ریکس یا میگنٹنگ بورڈز میں محفوظ کریں۔
- آلات کے استعمال سے پہلے، دوران، اور بعد میں SOPs پر عمل کریں۔

او ایچ اینڈ ایس باورچی خانے اور پیٹریسری میں



- نقصان کی اطلاع دیں؛ غیر محفوظ آلات کو استعمال سے ہٹا دیں۔
- کیمیکلز (پتھے، دستانے، ماسک) کو سنبھالنے وقت پی پی ای پہنیں۔
- ہدایات پڑھیں اور درست ڈائریکشن ریشوز استعمال کریں؛ MSDS شیٹس دیکھیں۔
- درست جسمانی حالت برقرار رکھیں؛ جھکاؤ سے گریز کریں۔
- مضبوط، غیر پھسلنے والے جوتے پہنیں۔
- یونيفارم: لمبی آستینیں، ایپرن، اور ٹارچن (ڈش کلاتھ) تاکہ جلنے اور گرنے سے بچا جاسکے۔

2. مہمان نوازی کے شعبوں میں OH&S

دستی بینڈلنگ

- صحیح لفٹنگ تکنیک استعمال کریں (اسکواٹ، ٹانگوں سے اٹھانا)۔
- آٹے کے تھیلوں، برتنوں یا کیگز کے لیے ٹرالی استعمال کریں۔
- بھاری اشیاء کو نیچے رکھیں تاکہ دباؤ نہ ہو۔
- بیوی/ہاٹ لوڈز کے لیے مدد مانگیں۔
- جب آپ بھاری یا گرم اشیاء لے کر جائیں تو ساتھیوں کو خبردار کریں۔
-

برنز اور سکلڈز

- گرمی یا ہلکی تلائی سے چربی کے چھینے جلنے کا سبب بن سکتے ہیں— خشک کپڑے اور جھٹے استعمال کریں۔
- کبھی بھی پانی اور گرم چکناٹی کو مکس نہ کریں۔
- فرائیر آئل کو صاف کرنے سے پہلے ٹھنڈا ہونے دیں۔
- بھاپ خطرناک ہے— ڈھکن احتیاط سے کھولیں۔
- گرم بینڈلز پر آنا چھڑک کر درجہ حرارت چیک کریں۔

3. فرنٹ آفس میں OH&S

- اہم خطرات: دستی بینڈلنگ، بار بار دباؤ ڈالنا، ایرگونامکس، ٹھوکر کھانے کے خطرات۔
- پورٹرز/کنسیئرژ: سامان کی دستی بینڈلنگ کے طریقہ کار پر عمل کریں۔
- ریسپشنسٹ: آکپو پینٹل اور یوز سنڈروم کا خطرہ (ناپٹنگ، اسکرینز)۔
- آرگنائزنگ میٹ یا بریک استعمال کرنے کے طویل عرصے سے کھڑے ہوتے ہیں۔
- ڈھیلے کیبلز انہیں محفوظ کر → تاکہ مہمانوں یا عملے کے دورے سے بچا جاسکے۔
- ویلیٹ سروسز محفوظ ڈرائیونگ کے طریقے اور مہمان گاڑی کی بینڈلنگ کو یقینی → سکتی ہیں۔

4. فوڈ اینڈ بیورج سروس میں OH&S

- اہم خطرات: ٹریس، جلنے کے زخم، ٹوٹے ہوئے برتن، گیس/بجلی کے خطرات۔
- عملے کی حرکت → گرم اشیاء لے جانے پر اعلان کر سکتی ہے۔
- ہمیشہ فوراً گرنے والے مواد اور ٹوٹے ہوئے شیٹے کو صاف کریں۔
- کبھی بھی ٹوٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے گلاس یا برتن استعمال نہ کریں۔
- صفائی سے پہلے سامان کو ان پلگ کریں۔
- الیکٹریکل کورڈ ٹیگز کی مبیعاد ختم ہونے کے لیے چیک کریں۔

- بیئر لائنز، گیس کنکشنز، اور غیر فعال گیسوں حفاظتی پروڈکٹوں کی پیروی → ہیں۔
- کیگز یا کریٹس منتقل کرتے وقت درست دستی ہینڈلنگ استعمال کریں۔
- تمام سروس آلات کے لیے SOP کی واقفیت۔

5. ہاؤس کیپنگ میں OH&S

اہم خطرات: بھاری سامان اٹھانا، کیمیکلز، مہمانوں کی پرائیویسی، حیاتیاتی خطرات۔

- صحیح دستی ہینڈلنگ کے ساتھ بھاری فرنیچر اٹھانیں / منتقل کریں۔
- رسک اسیسمنٹ کے ذریعے SOPs ڈیزائن کریں۔
- مہمانوں کے کمروں میں 3-سٹک طریقہ کار کے ذریعے داخل ہوں اور لائٹس آن کریں۔
- کھانے کے نلکے یا تیز اشیاء کو ہاتھ لگاتے وقت دستانے پہنیں۔
- کبھی بھی صفائی کے کیمیکلز کو مکس نہ کریں۔ مینوفیکچر کی ہدایات پر عمل کریں۔
- ویکس اور آلات پر الیکٹریکل ٹیگس چیک کریں۔
- سرخ یا سونیاں نہ ہاتھ لگائیں اور سپروائزر کو رپورٹ کریں۔
- انسانی فضلہ / مصنوعات کی صفائی کرتے وقت پی پی ای استعمال کریں۔
- صفائی کے دوران ہمیشہ عوامی جگہوں پر حفاظتی سائن بورڈ لگائیں۔

6. عمومی حفاظتی تقاضے

آلات کی حفاظت

- چاقوؤں (درازا/مقناطیسی بورڈز) کو صحیح طریقے سے صاف کریں / محفوظ کریں۔
- کھانے کے رابطے کے آلات کو استعمال سے پہلے صاف کریں۔
- الیکٹریکل آلات کا معائنہ کریں کہ کہیں تاریں خراب نہ ہوں۔
- آلات کو گیلی جگہوں سے دور رکھیں۔
- احتیاطی دیکھ بھال کے شیڈول پر عمل کریں۔

کیمیائی حفاظت

- کیمیکلز کو لاک اپ، ہوا دار اسٹور رومز میں محفوظ کریں۔
- تیزاب کو الکی سے الگ کریں۔

- اصل اور واضح لیبل والے کنٹینرز میں رکھیں۔
- MSDS رجسٹر برقرار رکھیں۔
- ہینڈلنگ یا پتلا کرتے وقت پی پی ای استعمال کریں۔
- لائسنس یافتہ فضلہ کمپنیوں کے ذریعے تلف کریں۔

7. حادثات کی رپورٹس

رپورٹ کیوں کریں؟

- غیر محفوظ طریقوں اور خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔
- انتظامیہ کو اصلاحی اقدامات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- یہ روک تھام کی ثقافت پیدا کرتا ہے۔
- یہ عملے اور مہمانوں دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔

رپورٹنگ کے رہنما اصول:

- تمام حادثات اور "قرب سے متصادم ہونے کے واقع" کی اطلاع دیں۔
- فوری طور پر غیر محفوظ طریقے رپورٹ کریں۔
- سرکاری حادثاتی رپورٹ فارم استعمال کریں۔
- مینیجرز اور OH&S کمیٹیوں کو رپورٹس کا جائزہ لینا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔

ٹریننگ نوٹس

- رول پلے استعمال کریں (مثلاً، مہمان گیلی فز پر پھسلنا، اسٹاف کیگ اٹھانا)۔
- فائر ڈرل اور حادثہ رپورٹنگ کی مشق کریں۔
- ٹریننگ رومز میں OH&S سائن بورڈز/علامات لگائیں۔

تشخیصی معیار

- علم: ہر شعبے میں OH&S کے خطرات کی وضاحت کرتا ہے۔
- مہارتیں: محفوظ طریقے سے اٹھانا، ذاتی حفاظتی سازوسامان PPE کے درست استعمال، اور رپورٹنگ کے طریقہ کار کو ظاہر کرنا۔
- رویہ: تمام کاموں میں حفاظتی شعور کا مظاہرہ کرتا ہے۔

مہمان نوازی میں آگ اور ہنگامی طریقہ کار

1. کام کی جگہ پر ہنگامی طریقہ کار

بیان:

ہنگامی صورتحال اچانک پیش آسکتی ہے اور عملے اور مہمانوں دونوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حفاظت کو یقینی بنانے اور نقصان کو کم کرنے کے لیے معیاری ہنگامی طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔

ہنگامی اقسام:

- آگ
- ہتھیاروں کے ساتھ دیکھتی کی واردات
- بھری دھمکی
- طبی ایمر جنسی
- ذاتی دھمکیاں (تشریح، جارحیت)
- غیر متوقع موت

اہم رہنما اصول:

- ہمیشہ اپنے ادارے کے مقرر کردہ ایمر جنسی پلان پر عمل کریں۔
- مینیجرز عملے کی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہر ملازم کو طریقہ کار کا علم ہونا چاہیے۔
- ہر واقعہ کو سرکاری طور پر دستاویزی شکل دی جانی چاہیے۔

- مشتبہ افراد کے معاملات میں، عملے کو پولیس یا سیکورٹی کو تفصیلی تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

2. ہنگامی صورتحال میں اقدامات

1. الارم بلند کریں۔ فائر الارم فعال کریں یا ایمر جنسی نمبرز (10111، 111.000 وغیرہ) پر کال کریں۔
2. انخلا کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ مخصوص راستے استعمال کریں، لفٹوں سے بچیں۔
3. حفاظت کو ترجیح دیں۔ مسلح ذہنی جیسے معاملات میں، مزاحمت نہ کریں، حفاظت عمل سے پہلے آتی ہے۔
4. مہمانوں کی مدد کریں۔ انہیں باہر نکلنے اور اجتماع کے علاقوں کی طرف رہنمائی کریں۔
5. فوری رپورٹ کریں۔ سپروائزر اور سیکورٹی ٹیم کو اطلاع دیں۔

3. آگ کی حفاظت

فائر ٹرائینگل

آگ جلانے کے لیے تین عناصر درکار ہوتے ہیں: ایندھن + آکسیجن + حرارت۔ آگ بجھانے کے لیے ان میں سے ایک عنصر کو ہٹانا شامل ہے:

- دم گھٹنا: آکسیجن کاٹنا (دست، مٹی، جھاگ، CO₂، خشک پاؤڈر)۔
- ٹھنڈک: درجہ حرارت (پانی) کو کم کرنا۔
- بھوکا: ایندھن کا ذریعہ ختم کرنا۔

آگ کی اقسام اور دست آگ بجھانے والے

کلاس	مادہ	دست طریقہ / ایکسٹنگوشر	صحیح استعمال نہ کریں
A - سالز فائر	لکڑی، کاغذ، کپڑا	پانی (ٹھنڈک)، کوئی بھی ایکسٹنگوشر	-
B - لیویوڈ فائر	تیل، پیٹرول، چکنائی	خشک کیمیکل، فوم، CO ₂ ، خاص مقصد (کھانا پکانے کی چکنائیوں کے لیے)	-
C - گیس فائر	ایل پی جی، قدرتی گیس	سورس بند کریں، پھر ڈرائی کیمیکل یا CO ₂	پانی
ڈی - میٹل فائر	سیسٹیم، ایلو مینیم	خصوصی مقصد کا ایکسٹنگوشر	پانی
E - برقی آگ	وائرنگ، آلات	خشک کیمیکل یا CO ₂	پانی

i: ہمیشہ حرارت اور دھوئیں کے سانس لینے کے خطرات کو مد نظر رکھیں، انخلاء کریں اور پیشہ ور افراد کو بڑی آگ سے نمٹنے دیں۔

4. بم کے خطرے کے طریقہ کار

بم دھماکے کی کال کے دوران:

- پرسکون رہیں اور نارمل رویہ اختیار کریں۔

- غور سے سنیں، نوٹس لیں۔
- بالکل درست الفاظ، تاریخ، اور وقت ریکارڈ کریں۔

بم کی دھمکی کے بارے میں پوچھنے کے سوالات:

- بم کب پھٹے گا؟
- یہ کہاں واقع ہے؟
- یہ کس قسم کا بم ہے؟
- کیا چیز اسے متحرک کرے گی؟
- یہ کس نے رکھا اور کیوں؟
- کالر کا نام اور مقام۔
- نوٹ کریں کہ کال ختم ہو گئی۔

5. انخلا کے طریقہ کار

ہر ادارے کے پاس ایک دستاویزی انخلا کا منصوبہ ہونا چاہیے جس کی حمایت کی جاتی ہے

خصوصیات:

- عملے/مہمانوں کو خبردار کرنے کے لیے الارم سسٹم۔
- انخلا کے راستے اور سائن بورڈ صاف کریں۔
- اسمبلی پوائنٹ (جگہ سے محفوظ فاصلہ)۔
- نامزد وارڈنز اور ذمہ داریاں رکھنے والے عملہ۔
- عملے اور مہمانوں کی رول کال/ریکارڈ کیپنگ۔
- مختلف منظرناموں (آگ، بم دھمکی، طبی) کے لیے رد عمل کے منصوبے۔

6. ورک پلیس سیکورٹی کے طریقہ کار

بیان:

سیکیورٹی خطرات باہر (بیرونی) یا اندرونی (اندرونی) ادارے سے آسکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر دونوں کو حل کرنے چاہئیں۔

بیرونی اقدامات

- سیکیورٹی گارڈز رکھیں۔
- سیکیورٹی کیمرے اور الارم سسٹمز نصب کریں۔
- کھڑکیوں اور دروازوں پر گرل لگائیں۔
- مہمانوں کو صرف عملے کے لیے مخصوص علاقوں تک رسائی محدود کریں۔

اندرونی اقدامات

- پتھری سے بچاؤ (نقد رقم، اسٹاک کی نگرانی کریں)۔
- عملے اور صارفین کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔
- ہنگامی طریقہ کار اور عملے کی تربیت۔
- مالی کنٹرولز تاکہ فراڈ سے بچا جاسکے۔
- حساس علاقوں (دفاتر، کیش رومز) تک رسائی محدود کریں۔
- خفیہ رپورٹنگ چینلز فراہم کریں۔
- معیاری آپریٹنگ پروسیجرز (SOPs) کو نافذ کریں۔

ٹریینر نوٹس

- نقلی آگ بجھانے کی مشقیں اور انخلا کے لیے کردار ادا کرنا۔
- چیک لسٹ کے ساتھ ہم تمہرے کال رول پلے کی مشق کریں۔
- تربیتی مرکز پر فائر ایکسٹنشن کے استعمال کا مظاہرہ کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: فائر ٹرائینگل، ایکسٹنشن کی اقسام، ہنگامی طریقہ کار کی شناخت۔
- مہارت: ایکسٹنشنز کے درست استعمال، انخلا کے طریقہ کار کو ظاہر کرتا ہے۔
- رویہ: مشقوں کے دوران سکون، تعاون اور ذمہ داری دکھاتا ہے۔

مہمان نوازی کا دائرہ اور ویٹرز کا پیشہ

با سپیشیلٹی انڈسٹری دنیا کے سب سے بڑے سروس سیکٹرز میں سے ایک ہے، جس میں وہ کاروبار شامل ہیں جو رہائش، کھانا اور مشروبات، تفریح، تفریح اور متعلقہ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ہوٹلز، ریزورٹس، ریسٹوران، کیفے، کلبز، گیمنگ اسٹیبلشمنٹس، ایونٹ وینوز اور کیئرنگ سروسز شامل ہیں۔

دائرہ کار کی اہم خصوصیات:

- رہائش: ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز، ریزورٹس، موٹل۔
- کھانا اور مشروبات: ریسٹوران، کیفے، کیئرنگ، بارز۔
- تفریح اور تفریح: تھیم پارکس، کیسینوز، کلبز، تقریبات۔
- سفر اور سیاحت کی خدمات: ایئر لائنز، کروڑ، ٹریول ایجنسیاں۔
- استعمال کی شرح: کارکردگی کا ایک اہم پیمانہ (ہوٹلوں میں قبضے کی شرح، ریسٹورانوں میں میزوں کا ٹرن اوور)۔

﴿ مہمان نوازی کا دائرہ صرف کھانا یا بستر فراہم کرنے تک محدود نہیں—یہ اس بارے میں ہے مہمانوں کے لیے تجربات، آرام اور اطمینان پیدا کرنا۔

پیشے کی تعریف: ویٹر/سرور

ویٹر (سرور) ایک مہمان نوازی کا پیشہ ور ہوتا ہے جو مہمانوں کو ریسٹورانوں، کیفے، ہوٹلوں اور ایونٹ مقامات میں کھانا اور مشروبات پیش کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

ویٹر اکثر کاروبار کا چہرہ ہوتے ہیں، براہ راست گاہکوں سے بات چیت کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ وہ خوشگوار کھانے کا تجربہ حاصل کریں۔

عمومی فرائض:

- مہمانوں کو خوش آمدید کہیں اور بٹھائیں۔
- بیو پیش کریں اور سفارشات دیں۔
- آرڈرز کو درست طریقے سے لے کر پہنچائیں۔
- کھانا اور مشروبات پیشہ ورانہ انداز میں پیش کریں۔
- میزیں صاف کریں اور لگنے مہمانوں کے لیے ری سیٹ کریں۔
- بل پراسیس کریں اور ادائیگیاں سنبھالیں۔

﴿ ادارے کے لحاظ سے، سروس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں:

- عمدہ کھانا: رسمی، درست، چاندی کی سروس۔
- آرام دہ ڈائننگ/کیفے: دوستانہ، غیر رسمی، گفتگو کا انداز۔
- تقریبات اور ضیافتیں: تیز رفتار، ٹیم پر مبنی سروس۔

ویٹر کے فرائض اور ذمہ داریاں

یہ کردار تکنیکی خدمات کی مہارتوں اور نرم مہارتوں جیسے مواصلات اور مہمان نوازی کا امتزاج مانگتا ہے۔

عام فرائض:

- کھانے کے علاقے کھولنے سے پہلے سیٹ کریں (میزیں، کنلری، گلاس، مصالحو جات)۔
- خوش آمدید اور نشست کے گاہک؛ پانی یا خوش آمدیدی مشروبات پیش کریں۔
- بیو پیش کریں اور اس کی وضاحت کریں، جس میں روزانہ کی خاص پیشکشیں بھی شامل ہیں۔
- کھانے کے اجزاء یا تیاری کے بارے میں مہمانوں کے سوالات کے جواب دیں۔
- آرڈرز لیں اور انہیں کچن یا بار کے عملے تک پہنچا دیں۔
- اگر ضرورت ہو تو پلیٹیں یا مشروبات سجاوٹ اور تیار کریں۔
- کھانا اور مشروبات بروقت پہنچائیں۔
- صاف پلیٹیں، کنلری اور شیٹے کے برتن مہمان کھانا ختم کرتے ہیں۔
- تفصیلی بل پیش کریں، ادائیگیاں پراسیس کریں، اور تبدیلی/رسیدیں واپس کریں۔

- صفائی برقرار رکھیں اور اگلی سروس کے لیے میزیں دوبارہ ترتیب دیں۔

ایک عظیم ویٹر کی اعلیٰ خصوصیات

پیشہ ور ویٹرز بنیادی خدمات سے آگے بڑھتے ہیں؛ وہ یادگار مہمانوں کے تجربات تخلیق کرتے ہیں۔

خصوصیات:

- ظاہری شکل: صاف، صاف ستھرا یونیفارم؛ صاف ستھرائی۔
- وقت کی پابندی: وقت پر پہنچتا ہے، سروس کے لیے تیار۔
- مہمان نوازی: گرمجوش، دوستانہ، قابل رسائی۔
- مینو کا علم: کھانوں، اجزاء اور جوڑوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔
- تفصیل پر توجہ: پیش کرنے سے پہلے برتن چیک کریں۔
- مشاہدہ کرنے والا: مہمانوں کی ضروریات کو نوٹ کرتا ہے (خالی گلاس، جسمانی زبان)۔
- کارکردگی: کھانے کے بعد تیز سروس فراہم کرتا ہے اور میزوں کو تیزی سے ری سیٹ کرتا ہے۔
- شائستگی: مشوروں اور مہمانوں کے ساتھ بات چیت کو عزت کے ساتھ سنبھالتا ہے۔

ایک عظیم ویٹر کی خصوصیات:

- ظاہری شکل: ایک بہترین ویٹر صاف اور صاف ستھرا یونیفارم رکھتا ہے، جو ریستوران کے لباس کے ضابطے کی پابندی کرتا ہے۔ اچھی طرح سنوارنا، جس میں اچھی طرح سنوارے ہوئے بال اور صاف ہاتھ شامل ہیں، پیشہ ورانہ ایج پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔
- وقت کی پابندی: وقت پر پہنچنا، سروس کے لیے تیار، ریستوران اور مہمانوں دونوں کے لیے احترام ظاہر کرتا ہے۔ وقت کی پابندی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ویٹر اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے انجام دے اور سروس کے ہماؤ کو ہموار بنانے کے لیے تیار ہو۔
- مہمان نوازی: گرمجوش، دوستانہ اور قابل رسائی رویہ خوش آمدید کہنے والا ماحول بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایک بہترین ویٹر مہمانوں کو آرام دہ اور قابل قدر محسوس کراتا ہے، اور مثبت کھانے کے تجربے کو فروغ دیتا ہے۔
- مینو کا علم: مینو کی مکمل معلومات، جس میں کھانوں، اجزاء، اور ممکنہ الرجینز شامل ہیں، باخبر سفارشات فراہم کرنے اور مہمانوں کے سوالات کے درست جواب دینے کے لیے ضروری ہے۔ شراب اور مشروبات کے امتزاج کو سمجھنا ویٹر کی مہمانوں کی انتخاب میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت کو مزید بڑھاتا ہے۔
- تفصیل پر توجہ: ڈشز پیش کرنے سے پہلے، ایک بہترین ویٹر باریک بینی سے کسی بھی خامیوں یا تضادات کو چیک کرتا ہے۔ یہ باریکی یقینی بناتی ہے کہ مہمانوں کو ایسے کھانے ملیں جو ریستوران کے معیار اور ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوں۔
- مشاہدہ کرنے والا: مہمانوں کی ضروریات جیسے خالی گلاس یا باریک جسمانی اشارے محسوس کرنے کی صلاحیت ویٹر کو درخواستوں کا اندازہ لگانے اور پیشگی خدمت فراہم کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ توجہ مہمانوں کی تسکین کے لیے حقیقی فکر کو ظاہر کرتی ہے۔
- کارکردگی: کھانے کے بعد تیز اور مؤثر سروس فراہم کرنا، جس میں پلیٹیں صاف کرنا اور اداگیلیاں پراسیسنگ شامل ہیں، ٹیبیل کے ہموار تبادلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ میزوں کو فوری طور پر ری سیٹ کرنا یقینی بناتا ہے کہ نئے مہمان بغیر تاخیر کے بیٹھ سکیں۔
- شائستگی: مشوروں اور مہمانوں کے ساتھ بات چیت کو عزت اور احترام کے ساتھ سنبھالنا سب سے اہم ہے۔ ایک بہترین ویٹر ہر وقت شائستہ اور پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھتا ہے، چاہے صورتحال کچھ بھی ہو۔

ٹرینر نوٹس

- رول پلے کے منظر نامے: آرڈر لینا، مہمان کے سوال کو سنبھالنا، فائن ڈائمنگ میں پیش کرنا بمقابلہ کیفے۔
- موک سروس سے پہلے گرومنگ انسپیکشن۔
- سیولیشنز: "میز پر مہمان کی شکایت،" "روزانہ کے خصوصی پروگراموں کی وضاحت۔"

لرننگ پوائنٹ 1.1.1: حفاظت کا تعارف

جمعہ کی شام ایک مصروف ریسٹوران کا تصور کریں۔ ویٹرز میزوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، شیف کچن میں تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور مہمان بڑی توقعات کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس بائی انرجی ماحول میں، اگر حفاظتی اصولوں کی پابندی نہ کی جائے تو حادثات آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ گرے ہوئے مشروب، بغیر نگہانی کے گرم پلیٹ، یا برقی شارٹ سرکٹ افزائشی پیدا کر سکتے ہیں۔

حفاظت اہم ہے کیونکہ:

- ریسٹورانٹ میں ہر شخص عملہ، مہمانوں اور سپلائرز کے خطرے میں ہے۔
- حادثات اس وقت روکے جاسکتے ہیں جب لوگ ذمہ داری قبول کریں۔
- محفوظ آپریشنز ہموار آپریشنز کو یقینی بناتے ہیں۔
- F&B میں، حفاظت سب کی ذمہ داری ہے: ویٹرز، بارٹینڈرز، شیفرز اور اسٹیورڈز۔ ہر عمل اجتماعی تحفظ کی ثقافت میں حصہ ڈالتا ہے۔

ٹرینر کے نوٹس: سیکھنے والوں کو حفاظتی علامات دکھائیں جیسے ہاتھ سرفیس، فائر ایگزٹ، ہائیو ہیرڈ ویسٹ، اور اطلاقات کی وضاحت کریں۔
تشخیص: سیکھنے والے F&B آؤٹ لیٹ میں وضاحت کرتے ہیں کہ حفاظت ہر کسی کا کام کیوں ہے۔

لرننگ پوائنٹ 1.1.2: ذاتی حفاظتی طریقے

کھانے اور مشروبات کی خدمات میں، عملے کی ظاہری شکل اور صفائی کا معیار کھانے کے معیار جتنا ہی اہم ہے۔ گاہک پیشہ ورانہ رویے کا اندازہ اس بات سے لیتے ہیں کہ عملہ کتنا صاف، پراعتماد اور محفوظ نظر آتا ہے۔ ذاتی صفائی بھی آلودگی کو روکتی ہے اور عملے اور مہمانوں دونوں کی حفاظت کرتی ہے۔

معیارات میں شامل ہیں:

- یونیفارم اور سنواری: صاف یونیفارم، ایپرن، پھسلنے سے بچنے والے جوتے، صاف ستھرے بال، کوئی زیور نہیں۔
- صفائی کے طریقے: بار بار ہاتھ دھونا، کور کٹ لگانا، کھانسی یا چہرے کو چھونے سے گریز کرنا۔
- ورک سٹیشن کی صفائی: ٹرے اور میزوں کو صاف ستھرا رکھیں۔

ٹرینر نوٹس: WHO کے ہاتھ دھونے کے 7 مراحل کی مثال دیں۔ رول پلے 'پہلا تاثر' کے منظر نامے۔
تشخیص: ہاک سروس شفٹ سے پہلے گرومنگ چیک لسٹ۔

لرنگ پونٹ 1.1.3: خطرے کی آگاہی

ریستوران اور کچن ممکنہ خطرات سے بھرے ہوتے ہیں۔ عملے کو انہیں فوراً پہچاننا اور رپورٹ کرنا ہوگا۔



عام خطرات:

- پھسلنے اور پھسلنے کے بعد: گیلا فرش، گرنے والا کھانا۔
- جلنے کے زخم: گرم پلیٹیں، ابلتا ہوا مائع۔
- کٹ: چھریاں، ٹونا ہوا شیشہ۔
- الیکٹریکل: خراب وائرنگ، اوور لوڈ مشینیں۔
- خوراک کے خطرات: کراس کنٹامینیشن، خراب شدہ اجزاء۔
- ذہنی دباؤ کے خطرات: لمبی شفٹیں، چوٹی کا رش۔

ٹرینر نوٹس: تربیتی علاقے میں 'ہیڈز ہنٹ' کریں۔

تشخیص: سیکھنے والے ریستوران کے منظر نامے کے لیے

خطرے کی چیک لسٹ تیار کرتے ہیں۔

لرنگ پونٹ 1.1.4: ہنگامی تیاری

کھانے اور مشروبات کے آؤٹ لیٹس میں ہنگامی حالات میں آگ، مہمانوں کا گلا گھونٹنا، گیس کا رساؤ، یا بجلی کی بندش شامل ہو سکتی ہے۔ عملے کو پرسکون اور فوری رد عمل دینا چاہیے اور مہمانوں کو محفوظ مقام تک لے جانا چاہیے۔

طریقہ کار:

- آگ: ایکسٹنگوئشر استعمال کریں جس میں PASS (کھینچنا، نشانہ لگانا، دباؤ، جھارو کرنا) ہو۔
- گلا گھونٹنے والے مہمان: اگر تربیت یافتہ ہوں تو ہائلٹک لگائیں یا طبی مدد کو کال کریں۔
- گیس لیک: الیکٹریکل سوچز کو خالی کریں اور ان سے بچیں۔
- بجلی کی ناکامی: مہمانوں کی رہنمائی کریں، ایمرجنسی لائٹس استعمال کریں۔

ٹرینر نوٹس: فائر ڈرلز کی مشق کریں اور مہمانوں کے گلے گھنٹنے کے مناظر کی نقل کریں۔

جائزہ: ہنگامی اقدامات پر سوال و جواب۔

لرنگ پونٹ 1.1.5: بنیادی فرسٹ ایڈ آگاہی

حالات جیسے جلنے، کٹ یا پھسلنے عام ہیں۔ عملے کو صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے بنیادی فرسٹ ایڈ آگاہی ضروری ہے۔

مشقوں:

- جلنے کے زخم: ہستے پانی سے ٹھنڈا کریں، تیل سے پرہیز کریں۔
- کٹ: دھونا، پریشر لگانا، پٹی باندھنا۔
- گلا گھونٹنا: اگر تربیت یافتہ ہو تو بائیلج کی حرکت۔
- بے ہوشی: ریکوری پوزیشن، کپڑے ڈھیلے کرنا، مدد کے لیے کال کرنا۔

ٹریزر کے نوٹس: پٹی باندھنے اور جلنے کے علاج کا مظاہرہ کریں۔ جائزہ: مہمان کے حادثے پر رد عمل میں کردار ادا۔

خوراک اور شراب کی حفاظت کے لیے عملی یونٹس (PU)

- PU1.1: روزانہ تیار کاری اور پری شفٹ چیک → تربیت یافتہ افراد ڈیوٹی کی تیاری کرتے ہیں؛ ٹریزر یونیفارم، ناخن، ہاتھ دھونے کی جانچ کرتا ہے۔
- PU1.2: مہمانوں کے ساتھ مشابہت کی بات چیت → رول پلے سلام اور خدمت کے ساتھ صفائی کا خیال رکھنا۔
- PU1.3: کردار ادا کرنے والے کام کی جگہ کے منظر نامے → گرنے، ٹوٹے ہوئے شیٹے یا غصے والے مہمان کو سنبھالنا۔
- PU1.4: ورک ایریا کے معیار کو برقرار رکھنا → سیکھنے والے کھانے کی میزوں دست کریں اور صحیح طریقے سے جراثیم کشی کریں۔
- PU1.5: فرضی / عملی مشق کی شفٹ، پرفارمنس رولڈ کے ساتھ → مکمل ریسٹوران سروس جس میں ٹریزر حفاظتی مشقوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔
- PU1.6: ٹیم ورک اور ابلاغی مشقیں → ویٹر اور شیٹس دباؤ میں ہموار ہم آہنگی کی مشق کرتے ہیں۔
- PU1.7: اختتامی فرائض میں پیشہ ورانہ رویہ → لرنرز میزوں کی صفائی، فضلہ ٹھکانے لگانے اور کاؤنٹرز کو لاک کرنا۔

ٹریزر کا کردار

- بصری آلات (پوسٹرز، حفاظتی علامات) استعمال کریں۔
- ہاتھ دھونے، فائر ایکسٹنگشیر اور فرسٹ ایڈ کے مظاہرے کریں۔
- رول پلے اور سیمولیشنز کی حوصلہ افزائی کریں۔
- ماک شفٹ کے بعد تعمیری فیڈبیک فراہم کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: خطرات، حفاظتی علامات، اور SOPs کی شناخت کر سکتا ہے۔
- مہارتیں: درست صفائی، فرسٹ ایڈ، اور ہنگامی اقدامات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔
- رویہ: دباؤ میں ذمہ داری، سکون اور ٹیم ورک ظاہر کرتا ہے۔

لرننگ پوائنٹ 1.1.5: بنیادی فرسٹ ایڈ آگاہی (توسیع)

کھانے اور مشروبات کی خدمات کے ماحول میں، عملہ اکثر گرم مائع، تیز اوزار، اور بھاری ٹرے سنبھالتا ہے۔ اس وجہ سے جلنے، کٹ لگنے یا دم گھٹنے جیسے حادثات نسبتاً عام ہو جاتے ہیں۔ ہر عملے کے رکن، صرف طبی ماہرین ہی نہیں، کو ابتدائی طبی امداد کی بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہئیں، جو کسی کو پیشہ ورانہ طبی علاج سے پہلے فوری مدد دی جاتی ہے۔ فوری اور درست ابتدائی طبی امداد جانیں بچا سکتی ہے، چوٹوں کی شدت کو کم کر سکتی ہے، اور مہمانوں کو یقین دلا سکتی ہے کہ وہ محفوظ باتھوں میں ہیں۔

بنیادی فرسٹ ایڈ کے اہم اجزاء

فرسٹ ایڈ کٹ کی جگہ

- ہر کھانے اور مشروبات کی دکان کے پاس آسانی سے دستیاب اور مکمل طور پر موجود فرسٹ ایڈ کٹ ہونا چاہیے۔
- کٹس کو کچن ایریاز (جلنے اور کٹ کے لیے) اور ڈائننگ/سروس ایریاز (مہمانوں کے حادثات کے لیے) دونوں جگہوں پر لگانا چاہیے۔
- عملے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کٹس کی صحیح جگہ کہاں ہے اور کون ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔
- ایک معیاری کٹ میں پٹیاں، اینٹی سٹیپکس، جراثیم سے پاک گاز، قہنجی، چپکنے والی ٹیپ، دستانے، برن کریم، اور سی پی آر ماسک شامل ہیں۔



2. سی پی آر کا تعارف (کارڈیو-پلمونری ریسسٹینشن) قلبی و پھیپھڑوں

کی بحالی

- سی پی آر ایک جان بچانے والی طریقہ کار ہے جو اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی کی سانس یا دل کی دھڑکن رک جائے۔


- صرف ہاتھوں سے سی پی آر: دونوں ہاتھ سینے کے مرکز میں رکھیں اور تقریباً 100-

120 فی منٹ کی رفتار سے مضبوط، ردھک کپریٹرز دیں۔

- خوراک اور مشروبات کے عملے کو کم از کم بنیادی اصول جاننا چاہیے: آکسیجن اور خون

کی روانی برقرار رکھیں جب تک کہ

سی پی آر کے لیے ہاتھ کی پوزیشن



بیہوش مہمان کے لیے بحالی کی پوزیشن بحالی کی پوزیشن بیہوش مہمان کے لیے



3. معمولی پتوں کے لیے سادہ دیکھ بھال
 - کٹ: زخم دھوئیں، اینٹی سینیٹک لگائیں، اور جراثیم سے پاک پٹی سے ڈھانپ دیں۔
 - عملہ اس وقت تک کھانا پیش نہیں کرے جب تک زخم پر پٹی اور دستا نے نہ پہن لیے جائیں۔
 - جلنے/جلنے کے زخم: متاثرہ جگہ کو ٹھنڈے پانی کے نیچے 10-15 منٹ تک دھوئیں۔
 - تیل، لکھن یا آنا نہ لگائیں۔
 - بے ہوشی: مہمان کو ریکوری پوزیشن میں رکھیں، تنگ کپڑے ڈھیچے کریں، ہوا کے بہاؤ کو یقینی بنائیں۔
 - گلا گھونٹنا: اگر تربیت یافتہ ہو تو ہائم لیک میٹور لگائیں؛ اگر نہیں، تو فوری مدد کے لیے کال کریں۔

4. طبی مدد کب اور کیسے حاصل کی جائے

- اگر چوٹ معمولی علاج سے آگے ہے تو عملے کو جلدی سے معاملہ بڑھانا چاہیے۔
- اگر خون بہنا کنٹرول نہیں ہو سکتا، جلنے کے زخم گہرے ہیں، شخص بے ہوش ہے، یا الرجی کا رد عمل ہو تو پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔
- فوری طور پر ایمرجنسی نمبر یا ہسپتال سپورٹ لائن پر کال کریں۔
- پرسکون رہیں، مریض کو تسلی دیں، اور مہمانوں میں گھبراہٹ سے بچیں۔

ٹرینر نوٹس

- سیکھنے والوں کو اصل فرسٹ ایڈ کٹ دکھائیں اور مواد کی وضاحت کریں۔
- پٹی باندھن، جلنے کی ٹھنڈک، اور صحت یابی کی پوزیشن کا مظاہرہ کریں۔
- اگر کپڑے پر پیکس کے لیے دستیاب ہو تو CPR مینیکن استعمال کریں۔
- اس بات پر زور دیں کہ عملہ جدید طبی طریقہ کار کی کوشش نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو۔

تشخیصی معیار

- سیکھنے والے فرسٹ ایڈ کٹ کی جگہ اور مواد کی شناخت کر سکتے ہیں۔
- سیکھنے والے معمولی زخموں یا جلنے پر درست رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔
- سیکھنے والے یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کب معاملہ طبی ماہرین تک پہنچنا ہے۔
- سیکھنے والے کردار ادا کرنے کے حالات میں پرسکون اور ذمہ دار رہتے ہیں۔

ماڈیول 1.2: شفٹ کے دوران پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھیں (خوراک و مشروبات کی خدمات)

ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

1. F&B خدمات میں پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت کو تسلیم کریں۔
2. پیشہ ورانہ ایچ برقرار رکھنے کے لیے ذاتی گرومنگ اور صفائی کے معیارات لاگو کریں۔
3. کام کی جگہ کی اخلاقیات، آداب، اور مہمانوں اور ساتھیوں کے ساتھ مؤثر رابطے کا مظاہرہ کریں۔
4. وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کریں اور مصروف اوقات میں دباؤ کو سنبھالیں۔
5. مہمان نوازی میں تنظیمی ثقافت کو سمجھیں۔
6. مہمانوں پر مبنی رویہ تیار کریں اور اسے برقرار رکھیں تاکہ سروس کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔

لرننگ پوائنٹ 1.2.1: پری ٹریننگ ٹریننگ ٹیسٹ

مقصد:

یہ سرگرمی سیکھنے والوں کی پیشہ ورانہ مہارت، گرومنگ، صفائی، اور کام کی جگہ کے رویے کے بارے میں بنیادی علم کا جائزہ لیتی ہے، اس سے پہلے کہ رسمی تربیت شروع ہو۔

طریقہ:

- ایک مختصر ملٹی پل چوائس یا منظر نامہ پر مبنی ٹیسٹ۔

- ایسے سوالات جیسے: 'اگر ویٹر لیٹ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟' یا 'ارٹسٹوٹ ویٹر کے لیے کون سا یونیفارم اسٹینڈرڈ درست ہے؟'

ٹرینر نوٹس: مختصر رکھیں (10-15 منٹ)۔ نتائج کو استعمال کر کے ان شعبوں کی نشاندہی کریں جن پر تربیت کے دوران زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔

لرننگ پوائنٹ 1.2.2: F&B میں پیشہ ورانہ مہارت کا تعارف

کھانے اور مشروبات کی خدمات میں پیشہ ورانہ مہارت صرف یونیفارم پہننے سے بڑھ کر ہے۔ اس میں رویہ، رویہ، علم، اور مستقل مزاجی شامل ہے۔ مہمانوں کو شائستہ، مؤثر اور ماہر سروس کی توقع ہوتی ہے۔

اہم پہلو:

- ظاہری شکل: صاف، صاف ستھرا اور قابل پیشکش۔

- رویہ: باادب، پرسکون اور پراعتماد۔

- علم: بیو، واٹن لسٹ، سروس سیکوئنس سے واقف۔

- مستقل مزاجی: ہر شفٹ میں ایک ہی اعلیٰ معیار فراہم کرنا۔

مثال: ایک مہمان کسی ڈش کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایک پیشہ ور سرور اعتماد کے ساتھ جواب دیتا ہے، بیو تجاویز دیتا ہے بجائے اس کے کہ کچے 'مجھے نہیں معلوم'۔

ٹرینر نوٹس: رول پلے پرو فیشنل بمقابلہ غیر پیشہ ورانہ سروس



F&B میں، عملے کی تصویر ریسٹورنٹ کی کوالٹی کی عکاسی کرتی ہے۔ ناقص صفائی

خوراک کی صفائی کے بارے میں عدم اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔

معیارات میں شامل ہیں:

- یونیفارم: صاف، استری شدہ، مناسب فننگ۔

- بال: چھچھے یا ٹوپی کے نیچے بندھے ہوئے۔

- ہاتھ/ناخن: صاف، تراشے ہوئے، بغیر پالش کے۔

- جوتے: بند، پالش شدہ، پھسلنے سے مزاحم۔

- ذاتی صفائی: باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، تیز خوشبو نہ لگانا، ڈیوڈورنٹ استعمال کرنا۔

پیشہ ورانہ مہارت اور ذاتی خصوصیات

پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف

میرٹن-ویبیسٹر ڈکشنری کے مطابق، پیشہ ورانہ مہارت "وہ رویہ، مقاصد یا خصوصیات ہیں جو کسی پیشہ یا پیشہ ور شخص کی خصوصیت یا نشان زد کرتی ہیں۔"

پیشہ کی تعریف "ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے لیے خصوصی علم اور اکثر طویل اور گہری تیاری درکار ہو۔"

مہمان نوازی کی صنعت میں، پیشہ ورانہ مہارت علم، مہارت، اخلاقی رویے اور ذاتی پیشکش کو یکجا کرتی ہے تاکہ مہمانوں کے لیے بہترین تجربات فراہم کیے جا سکیں۔

پیشہ ورانہ مہارت کی اہم خصوصیات

1. خصوصی علم

بیان:

پیشہ ور افراد اپنے فن کو سیکھنے میں وقت اور محنت صرف کرتے ہیں۔ مہمان نوازی میں، اس میں سروس کے معیارات، کھانے اور مشروبات کے مینو، مہمانوں کے آداب، اور صفائی کے پروٹوکول کا علم شامل ہے۔ علم کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ متعلقہ رہے۔

نکات:

- سیکھنے اور بہتری کے لیے گہری وابستگی۔
- تعلیمی قابلیت، تربیت، یا سرٹیفیکیشنز۔
- مینو، واٹن، اور سروس کے علم کی مسلسل اپ ڈیٹ۔
- مثال: ایک ویٹر اعتماد کے ساتھ مہمان کے کھانے کے لیے شراب کے جوڑوں کی وضاحت کرتا ہے۔

2. مہارتیں اور مہارت

بیان:

ماہر پیشہ ور افراد قابل اعتماد، مؤثر اور حل پر مرکوز ہوتے ہیں۔ وہ بہانے نہیں بناتے، انہیں نتائج ملتے ہیں۔ F&B میں، مہارت ہائی پریشر ماحول میں بھی ہموار آپریشن کو یقینی بناتی ہے۔

نکات:

- کام وقت پر اور درستگی کے ساتھ فراہم کریں۔
- جب چیلنجز سامنے آئیں تو حل پر توجہ دیں۔
- مہمانوں کی توقعات کو شفاف طریقے سے منظم کریں۔
- مثال: ایک سرور پرسکون انداز میں مختصر تاخیر کی وضاحت کرتا ہے اور اس دوران روٹی یا پانی پیش کرتا ہے۔

3. احتساب

بیان:

پچھے پیشہ ور اپنے الفاظ، اعمال، اور غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ الزام تراشی سے بچتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔

نکات:

- فوراً غلطیوں کا اعتراف کریں۔
- جلدی اصلاحی کارروائی کریں۔
- ذمہ داری دکھا کر اعتماد برقرار رکھیں۔
- مثال: اگر کوئی غلط ڈش پیش کی جائے تو سرور معذرت کرتا ہے اور فوراً متبادل کا انتظام کر دیتا ہے۔

4. ایمانداری اور دیانت داری

بیان:

ایمانداری اعتبار پیدا کرتی ہے۔ دیانت داری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پیشہ ور افراد اقدار کو برقرار رکھیں اور دباؤ میں بھی صحیح کام کریں۔

نکات:

- وعدے اور وعدے پورے کریں۔
- مہمانوں کے ساتھ شفافیت برقرار رکھیں۔
- شارٹ کٹس یا غیر اخلاقی طریقوں سے بچیں۔
- مثال کے طور پر: اضافی ادائیگی واپس کرنا بجائے اس کے کہ اسے رکھ لیں۔

5. خود نظم و ضبط

بیان:

پیشہ ور افراد دباؤ یا جذباتی حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ وہ اپنے رویے کو قابو میں رکھتے ہیں تاکہ پرسکون اور باعزت موجودگی برقرار رکھ سکیں۔

نکات:

- مہمانوں کی شکایات کے باوجود پرسکون رہیں۔
- جذباتی رد عمل سے گریز کریں۔
- دباؤ کو وزن کے ساتھ سنبھالیں۔
- مثال کے طور پر: غصے والے مہمان کو شائستگی سے جواب دینا بجائے اس کے کہ ان کے لہجے سے میل کھائے۔

6. کردار کے مطابق نظر آنا ہے

بیان:

ظاہری شکل پیشہ ورانہ رویہ ظاہر کرتی ہے۔ صاف ستھرے یونیفارم، صاف ستھرا گرومنٹ، اور مناسب لباس مہمانوں میں مثبت پہلا تاثر پیدا کرتے ہیں اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔

نکات:

- صاف ستھرے اور چمکدار یونینفارم برقرار رکھیں۔
- صحیح صفائی (بال، ناخن، صفائی)۔
- مناسب انداز اور پراعتماد جسمانی زبان۔
- مثال: ایک اچھی طرح تیار شدہ ویٹر کھانے کی صفائی اور سروس کے معیار پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔

ٹرینر نوٹس

- رول پلے سے پہلے گرومنگ انسپیکشن کریں۔
- رول پلے استعمال کریں: مہمانوں کی شکایات کو پرسکون انداز میں سنبھالنا، جوابدہی کا مظاہرہ کرنا۔
- پیشہ ورانہ اور غیر پیشہ ورانہ پیشکش کی پہلے/بعد کی تصاویر دکھائیں۔

تشخیصی معیار

- علم: پیشہ ورانہ مہارت اور کلیدی خصوصیات کی تعریف کرتا ہے۔
- مہارتیں: جوابدہی، مہارت، اور دباؤ کو پرسکون طریقے سے سنبھالنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔
- رویہ: ایمانداری، دیانت داری اور ظاہری شکل پر فخر ظاہر کرتا ہے۔

گزشتہ پوسٹ 1.2.4: کام کی جگہ کی اخلاقیات اور آداب

تعارف

کام کی جگہ کی اخلاقیات اور آداب فوڈ اینڈ بیورج (F&B) انڈسٹری میں پیشہ ورانہ رویے کی بنیاد ہیں۔ وہ ہموار ٹیم ورک، تمام اسٹیک ہولڈرز کا احترام، اور مہمان نوازوں کے لیے مثبت تجربے کو یقینی بناتے ہیں۔ اخلاقیات رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا صحیح ہے، جبکہ آداب کا اصول ہے کہ کیسے بتاؤ کرنا ہے۔ یہ دونوں مل کر ہم آہنگی برقرار رکھتے ہیں، اعتماد پیدا کرتے ہیں اور سروس کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔

1. خوراک و مشروبات کے کام کی جگہ میں اخلاقیات

بیان:

اخلاقیات وہ اخلاقی اصول ہیں جو فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی میں، مضبوط اخلاقیات ایمانداری، انصاف، اور جوابدہی کو یقینی بناتی ہیں — چاہے وہ مہمانوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، یا انتظامیہ کے ساتھ ہو۔

اہم اخلاقی اصول (F&B سیاق و سباق):

- ایمانداری: آرڈرز، ادائیگیوں اور ٹپس کو دیانتداری سے سنبھالیں۔ کبھی بھی زیادہ چارج نہ کریں یا غلط رقم نہ رکھیں۔
- احترام: ساتھیوں، مہمانوں، اور سپروائزرز کے ساتھ برابر سلوک کریں، چاہے آپ کا پس منظر یا حیثیت کچھ بھی ہو۔
- ذمہ داری: غلطیوں کی جوابدہی قبول کریں اور فوری طور پر انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔
- انصاف: کام کا بوجھ منصفانہ طور پر بانٹیں، جانبداری سے گریز کریں، اور یقینی بنائیں کہ ہر مہمان کو یکساں معیار کی سروس ملے۔
- رازداری: مہمانوں کی پرائیویسی کا احترام کریں (مثلاً ذاتی معلومات یا کمرے کی تفصیلات ظاہر نہ کرنا)۔

مثال کے طور پر: اگر کوئی ویٹر مہمان کے کپڑوں پر شراب کا گلاس گرا دے، تو اسے معذرت کرنی چاہیے، رپورٹ کرنی چاہیے، اور مسئلہ حل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ غلطی چھپائے۔

2. کھانے اور شراب کے کام کی جگہ میں آداب

بیان:

آداب سے مراد مذہب رویے کے سماجی اصول ہیں جو خوشگوار اور باعزت ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ریسٹورانوں اور ہوٹلوں میں آداب براہ راست ادارے کی شہرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اہم آداب کی روایات (کھانے اور شراب کے سیاق و سباق):

- شائستگی زبان: ہمیشہ مہمانوں سے احترام کے ساتھ "سر/میڈم" کے ذریعے مخاطب ہوں۔ عام بول چال یا عام اصطلاحات سے گریز کریں۔

- میز کے آداب: تمام مہمانوں کے ختم ہونے کا انتظار کریں پھر پلیٹیں صاف کریں؛ کبھی جلدی نہ کریں۔
- ثقافتی حساسیت: خدمت کو ثقافتی اصولوں (مثلاً حلال/کوشر کھانا سنبھالنا، سلام کرنے کے انداز) کا احترام کرنا اپنانا۔
- پیشہ ورانہ رویہ: مہمانوں کے قریب ذاتی بات چیت سے گریز کریں، مناسب جسمانی حالت برقرار رکھیں اور خوشگوار رویہ اختیار کریں۔
- غیر زبانی آداب: مسکرائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اور باڈی لینگویج کا احترام کریں۔

مثال: اگر کوئی مہمان ایسی ثقافت سے تعلق رکھتا ہے جہاں براہ راست آنکھوں کا رابطہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو ویٹرز کو آرام کے لیے مناسب تبدیلیاں کرنی چاہئیں۔

ٹریینر نوٹس

- کردار ادا کریں: مہمانوں کے ساتھ شائستہ بمقابلہ غیر شائستہ بات چیت۔
- استعمال کے کلیں اسٹریٹج: اخلاقی مسائل (مثلاً، لے ہوئے پیسے کو سنبھالنا، بلنگ کی غلطیاں)۔
- کھانے میں ثقافتی آداب پر بحث کی حوصلہ افزائی کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: کام کی جگہ کی اخلاقیات اور آداب کی تعریف کرتا ہے۔
- مہارتیں: مذہب زبان، مناسب میز کے آداب، اور ثقافتی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- رویہ: تمام تعاملات میں ایمانداری، احترام، اور جوابدہی دکھاتا ہے۔

ویٹرز کے لیے کیا کرنا اور نہ کرنا (خدمت میں پیشہ ورانہ مہارت)

تعارف

باسپیشیائی کے آجر ویٹرز سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت پیشہ ورانہ رویہ دکھائیں۔ اس میں پرعزم ہونا، قابل اعتماد، ایماندار اور پرجوش ہونا شامل ہے، ساتھ ہی سیکھنے اور فیڈبیک قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کرنا۔ ان کرنے اور نہ کرنے والی باتوں پر عمل کرنا ہموار ٹیم ورک، مہمانوں کی تسلی اور کیہیٹر کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔

جدول 1: پیشہ ورانہ توقعات - ویٹرز کے لیے کرنے اور نہ کرنے کے اقدامات

انتظار	کیا کرنا	کیا نہ کریں
عزم	<ul style="list-style-type: none"> - کاروبار کو اچھا دکھانے کی کوشش کریں - تنظیم کے لیے محنت کریں - اپنی پوری کوشش کرو - مناسب لباس پہنیں 	<ul style="list-style-type: none"> - تنظیم پر باہر والوں کے سامنے تنقید کریں - صرف اس بات پر توجہ دیں کہ کاروبار آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے
بوش و خروش	<ul style="list-style-type: none"> - اپنے کام میں دلچسپی لیں - اپنے خیالات شیئر کریں - خوش رہو - دوسروں کی مدد کریں 	<ul style="list-style-type: none"> - صرف اتنا ہی کرو جتنا گزارا ہو - معیار میں کوئی دلچسپی نہ دکھائیں - تعاون نہ کریں - اپنی نوکری کی شکایت کریں
قابل اعتماد ہونا	<ul style="list-style-type: none"> - وقت پر کام پم پہنچنا - کام شیڈول پر مکمل کریں - اگر بیمار ہو تو آجر کو اطلاع دیں - وعدے پورے کریں - صرف حقیقی بیماری کے لیے بیماری کی چھٹی استعمال کریں 	<ul style="list-style-type: none"> - دیر سے پہنچیں - کام کو نامکمل چھوڑنا - بغیر اطلاع کے کام سے غیر حاضر ہونا - اکثر غیر حاضر رہیں - ہمانے بناؤ - پورا کرنے میں ناکامی
ایمانداری	<ul style="list-style-type: none"> - غلطیاں تسلیم کریں - خلوص دل سے اپنی رائے کا اظہار کریں 	<ul style="list-style-type: none"> - اوزار/مواد چوری یا غلط استعمال - برے رویے سے بچنے کی کوشش کریں
سیکھنے کی آمادگی	<ul style="list-style-type: none"> - ہدایات سنیں - سوالات پوچھیں - نئے طریقے آزمائیں - غلطیوں سے سیکھیں 	<ul style="list-style-type: none"> - ہدایات کو نظر انداز کریں - مشورے کی مزاحمت کریں - سیکھنے سے گریز کریں
فیڈبیک قبول کریں	<ul style="list-style-type: none"> - تجاویز کے لیے کھلے رہیں - بہتری کے لیے تنقید کا استعمال کریں - فیڈبیک سے سیکھیں 	<ul style="list-style-type: none"> - جب آپ کو درست کیا جائے تو غصہ ہو جاتا ہے - تجاویز کو مسترد کریں - بار بار غلطیاں کریں
وقت کا انتظام	<ul style="list-style-type: none"> - ترجیحات کا تعین کریں - کام فوری طور پر شروع کریں - کام مکمل ہونے تک - ڈیڈ لائنز کو پورا کریں - وسائل کو دانشمندی سے استعمال کریں 	<ul style="list-style-type: none"> - تاخیر کے کام - ڈیڈ لائنز مس کرنا - فضلہ وسائل
حاضری اور وقت کی پابندی	<ul style="list-style-type: none"> - باقاعدہ اور وقت کا پابند رہیں - حاضری کی نظم و ضبط برقرار رکھیں 	<ul style="list-style-type: none"> - سپروائزر سے خیردار رہیں - مایوس ساتھی کارکن - ترقی یا تنخواہ میں اضافہ کھونا - معطل یا نوکری سے نکالا جائے

سیکھنے والوں کے لیے بیانیہ

- آجر عزم کی قدر کرتے ہیں اور ایسے عملے کو ناپسند کرتے ہیں جو کام کی جگہ پر شکایت یا برائی کرتے ہیں۔
- جوش و خروش متعدی ہے، خوشگوار خدمت ساتھیوں اور مہمانوں دونوں کو حوصلہ دیتی ہے۔
- قابل اعتماد ہونا اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اکثر دیر سے یا غیر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیم متاثر ہوتی ہے۔
- ایمانداری ضروری ہے؛ چھوٹے چھوٹے بے ایمانی کے اعمال ساکھ اور کیریئر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
- سیکھنے کی خواہش آپ کو نئے مینو، سسٹمز، یا سروس اسٹانڈرز کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتی ہے۔
- فیڈبیک کے لیے کھلا رہنا آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے بجائے اس کے کہ غلطیاں دہرائیں۔
- وقت کا انتظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مہمانوں کو مؤثر طریقے سے خدمت فراہم کی جائے اور آپریشنز بخوبی چلیں۔
- کم حاضری اور وقت کی پابندی انتباہات، تنخواہ کے ضیاع یا حتیٰ کہ برطرفی کا باعث بن سکتی ہے۔

ٹرینر نوٹس

- رول پلے استعمال کریں: "قابل اعتماد بمقابلہ غیر قابل اعتماد ویئر۔"
- کیس اسٹڈی: ٹپس کے ساتھ بے ایمانی مہمانوں کے اعتماد کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے۔
- سیکھنے والوں سے کہیں کہ وہ ریسٹورانوں میں ذاتی طور پر دیکھی گئی 3 باتیں درج کریں اور انہیں کیسے درست کیا جائے۔

تشخیصی معیار

- علم: پیشہ ورانہ رویے کے لیے کم از کم 3 کرنے اور نہ کرنے کے اصول درج ہیں۔
- مہارتیں: پریکٹس شفٹس کے دوران وقت کی پابندی، توجہ، اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- رویہ: جوش، ایمانداری، اور فیڈبیک قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کرتا ہے۔

لرننگ پونٹ 1.2.5: مؤثر مواصلاتی مہارتیں

مؤثر مواصلاتی چکر (F&B سیاق و سباق)، صارفین سے کیے نمٹیں۔ مہمان نوازی میں کسٹمر سروس

تعارف

ہاسپٹیلٹی اور سروس انڈسٹریز میں، طویل مدتی کامیابی کی کنجی مستقل اور اعلیٰ معیار کی کسٹمر سروس میں ہے۔ بار بار کاروبار، کسٹمر وفاداری، اور منافع بخش ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی ضروریات کو کتنی اچھی طرح سمجھتے اور ان کا جواب دیتے ہیں۔

یہ مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ کو اپنے گاہکوں کے بارے میں واضح ہونا چاہیے اور آپ کی فراہم کردہ مصنوعات اور خدمات کے ماہر بننا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں آپ ایسی سروس فراہم کر سکتے ہیں جو ذاتی نوعیت کی اور یادگار محسوس ہو۔

کسٹمر سروس میں ویٹر اسٹاف کا کردار

ویٹر اور ویٹریسز اکثر کاروبار اور گاہک کے درمیان براہ راست رابطہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بات چیت، رویے اور پیشہ ورانہ انداز کے ذریعے مہمان کے تجربے کے لیے ماحول قائم کرتے ہیں۔

- ایک ویٹر جو بیٹو کو مزیدار انداز میں بیان کرے، مشروبات یا میٹھے کی سفارش کرے، اور مہارت اور گرمجوشی کے ساتھ پیش کرے، گاہک کے کھانے کے تجربے کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔
- اچھی سروس نہ صرف مہمانوں کی اطمینان کو بڑھاتی ہے بلکہ عملے کے لیے ملازمت کی اطمینان کو بھی بڑھاتی ہے اور کاروبار کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔

معیاری سروس کے لیے اہم سوالات

بہترین کسٹمر سروس فراہم کرنے کے لیے، ہر مہمان نوازی کے پیشہ ور کو درج ذیل سوالات پر غور کرنا چاہیے:

1. ہم کون سی مصنوعات اور خدمات پیش کرتے ہیں؟
2. ہمارے موجودہ گاہک کون ہیں؟
3. ہمارے ممکنہ گاہک کون ہیں؟
4. میں ان مصنوعات اور خدمات کو مؤثر طریقے سے کیسے پیش اور فروخت کر سکتا ہوں؟
5. میں ہر بار اعلیٰ معیار اور مستقل سروس کیسے فراہم کر سکتا ہوں؟

ان سوالات پر غور کر کے، عملہ اپنی سروس کو صارفین کی توقعات کے مطابق بہتر طور پر ہم آہنگ کر سکتا ہے۔

صارفین کا روبرو کیوں منتخب کرتے ہیں

صارفین کے انتخاب کے پیچھے وجوہات پیچیدہ ہیں، لیکن سب سے سادہ حقیقت یہ ہے:

گاہک کسی مصنوعات کو خریدتے ہیں یا کسی خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ ان کی ضروریات اور توقعات کو پورا کرے یا اس سے بڑھ کر ہو، اور انہیں خوشی، قدر دانی اور اطمینان کا احساس دلائے۔۔

لہذا، مہمان نوازی میں کامیابی کے لیے صارفین کی ضروریات اور تصورات پر مسلسل توجہ دینا ضروری ہے۔

صارف کے تاثر کی تین سطحیں

1. مطلوبہ خدمات کی سطح

یہ وہ بنیادی معیار ہے جس کی ہر مہمان توقع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہوٹل میں، گاہک توقع کریں گے:

- ان سوٹ بائو روم کی سہولیات
- ٹیلیفون سروسز
- کمرے میں ٹیلی ویژن
- منی بار
- ان ہاؤس فلمیں

• روم سروس

اگر یہ بنیادی چیزیں غائب ہوں تو عدم اطمینان ناگزیر ہے۔

2. مطلوبہ خدمات کی سطح

یہ وہ "اضافی لمس" ہے جو مہمانوں نے دوسرے اداروں میں محسوس کیا ہوگا اور اب ہر جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدمات لازمی نہیں ہیں لیکن آرام اور سہولت کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ مثالوں میں شامل ہیں:

- استقبالیہ میں غیر ملکی تبادلہ خدمات
- مہمانوں کے لیے عمومی معلوماتی ڈائریکٹریز

مطلوبہ سطح کو پورا کرنا اکثر ایک ادارے کو اس کے حریفوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔

3. خوشگوار خدمات کی سطح

یہ وہ غیر متوقع، یادگار تجربہ ہے جو مہمان کی درخواست یا تصور سے کہیں آگے جاتا ہے۔ یہ خوشی اور دیرپا وفاداری پیدا کرتا ہے۔ مثالوں میں شامل ہیں:

- ذاتی نوعیت کے سلام (مثلاً، واپس آنے والے مہمان کا نام یاد رکھنا)۔
- مہمانوں کی ضروریات کا اندازہ لگانا اس سے پہلے کہ وہ پوچھیں (مثلاً، بارش والے دن چھتری پیش کرنا)۔
- خاص مواقع کے لیے مفت میٹھے جیسے سرپرائز کی مہمانیں۔

ٹوشگوار سروس مہمانوں کو خاص محسوس کراتی ہے اور انہیں بار بار گاہک بنا دیتی ہے جو دوسروں کو کاروبار کی سفارش کرتے ہیں۔

تعارف

فوڈ لینڈ بیورج سروسز میں، مؤثر مواصلات اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آرڈرز درست طریقے سے لیے جائیں، مہمان خود کو قدر کا احساس دیں، اور سروس کے دوران ٹیم کی ہم آہنگی بخوبی چلے۔ مواصلاتی چکر ایک منظم ماڈل ہے جو وضاحت کرتا ہے کہ معلومات عملے اور مہمانوں کے درمیان، اور ریسٹوران کے ساتھیوں کے درمیان کیسے بہتی ہیں۔

اس میں شامل ہیں: بھیجنے والا، پیغام، چینل، وصول کنندہ، فیڈبیک، سیاق و سباق، اور شور۔

.1 مرسل

بھیجنے والا رابطہ شروع کرتا ہے۔ F&B میں، بھیجنے والا یہ ہو سکتا ہے:

- ایک ویٹر جو آرڈر لے رہا ہے۔
- ایک شیف ہدایات دے رہا ہے۔
- ایک سپروائزر جو شفٹ سے پہلے اسٹاف کو بریفنگ دے رہا ہے۔

ذمہ داریاں:

- تصور: فیصلہ کریں کہ کیا بات چیت کی ضرورت ہے (مثلاً، "جدول 4 کو پانی کی ضرورت ہے")۔
- انکوڈنگ: اسے واضح الفاظ، اشارے، یا علامات میں بیان کریں۔
- ترسیل: پیغام تقریر، تحریری نوٹ یا POS سسٹم کے ذریعے پہنچائیں۔

2. پیغام

پیغام اصل مواد ہے۔ F&B میں یہ ہو سکتا ہے:

- مہمانوں کا آرڈر۔
- خاص ہدایات (مثلاً، "پیاز نہیں، اضافی مصالحہ دار")۔
- سروس پر فیڈبیک۔

مؤثر پیغام کی خصوصیات:

- وضاحت: صاف بات کریں اور اصطلاحات سے گریز کریں۔
- درستگی: مہمانوں کو دوبارہ آرڈر دیں تاکہ تصدیق ہو سکے۔
- اہمیت: اہم تفصیلات (الرجیز، کھانا پکانے کا انداز) پر قائم رہیں۔
- مکمل: یقینی بنائیں کہ تمام اشیاء اور ترامیم شامل ہوں۔

3. چینل

پیغام پہنچانے کا ذریعہ۔ F&B میں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں:

- روبو گفتگو (سروس سے مہمان)۔
- POS سسٹمز (سروس سے کچن)۔
- تحریری نوٹس (خاص تقریبات/ضیافتوں کے لیے)۔
- انٹرکام یا ریڈیو (بڑے ہوٹلوں میں)۔

چینل منتخب کرتے وقت غور و فکر:

- اسپید: کیا یہ فوری ہے؟
- پیچیدگی: کیا اس کے لیے تفصیلی وضاحت درکار ہے؟
- رازداری: کیا یہ مہمان کی شکایت کے بارے میں ہے؟

4. رسپور (وصول کنندہ)

وصول کنندہ وہ شخص یا گروہ ہے جس کے لیے پیغام مقصود ہے۔ F&B میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں:

- ایک مہمان جو ویٹر کی بات سن رہا ہے۔
- ایک شیف نکت پڑھ رہا ہے۔
- ایک مینیجر جو عملے کی اپ ڈیٹس وصول کر رہا ہے۔

ریسپور کی ذمہ داریاں:

- وصول کرنا: توجہ دیں بغیر کسی خلفشار کے۔
- ڈمی کوڈنگ: درست تشریح کریں (مثلاً، "کوئی پیاز نہیں" کا مطلب ہے سختی سے اجتناب کریں)۔
- سمجھنا: نیت کو سمجھنا (مہمان کی ترجیح، فوری ضرورت)۔

5. رائے

فیڈبیک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سائیکل مکمل ہو۔ اس کے بغیر، رابطہ یک طرفہ ہوتا ہے اور ناکام ہو سکتا ہے۔

F&B میں اقسام:

- زبانی فیڈبیک: مہمان کہتا ہے "ہاں، یہ درست ہے۔"
- غیر زبانی فیڈبیک: مہمان کی طرف سے مسکراہٹ، سر بلانا یا تیوری چڑھانا۔
- تحریری فیڈبیک: جائزہ کارڈ، آن لائن درجہ بندی۔
- ایکشن فیڈبیک: شیف ایک ڈش درست کرتا ہے، ویٹر پانی دوبارہ بھرتا ہے۔

6. سیاق

ہر بات چیت ایک سیاق و سباق میں ہوتی ہے۔

- جسمانی سیاق و سباق: شور شرالے والا کچن بمقابلہ پرسکون عمدہ ڈائننگ روم۔
- سماجی سیاق و سباق: مینیجر کا عملے سے بات کرنا بمقابلہ ساتھیوں کی باتیں۔
- ثقافتی سیاق و سباق: مہمانوں کی توقعات (رسمی بمقابلہ غیر رسمی)۔
- تاریخی پس منظر: پہلے مہمانوں کی شکایات گفتگو کے انداز کو متاثر کر سکتی ہیں۔

7. شور

شور رابطے میں خلل ڈالتا ہے۔ F&B میں یہ بہت عام ہے۔

- جسمانی شور: تیز موسیقی، برتنوں کی آواز۔
- نفسیاتی شور: مصروف اوقات میں دباؤ، تھکن۔
- معنوی شور: غلط سمجھا گیا اصطلاحات (مثلاً "بہت اچھا پکا" اسٹیک)۔
- فزولوجیکل شور: تھکا ہوا سرور توجہ مرکوز کرنے سے قاصر۔

F&B میں مواصلاتی مؤثریت کو بہتر بنانا

- آرڈر لیتے وقت واضح اور مختصر رہیں۔
- صحیح چینل منتخب کریں مہمانوں کے لیے آسنے سائے، کچن کے لیے فضول۔
- مہمانوں کی ضروریات کو فعال طور پر سنیں۔
- تصدیق کریں اور درستگی کے لیے احکامات دہرائیں۔
- غیر زبانی اشارے اشارے، تاثرات پر غور کریں۔
- شور کم کرینشور والے کمرے میں قریب آئیں، آہستہ بولیں۔
- رائے کی حوصلہ افزائی کریں پوچھیں "کیا آپ کے کھانے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے؟"

ٹریینر نوٹس

- کمیونیکیشن سائیکل ڈی ایگرا م دکھائیں (پیغام بھیجنے والا → پیغام → وصول کنندہ → فیڈبیک)۔
- رول پلے کریں: ویئر آرڈر لیتتا ہے، مہمان فیڈبیک دیتا ہے۔

- دباؤ میں واضح بات چیت کی تربیت کے لیے "شور والے ریسٹوران" کی حالتوں کی نقل کریں۔
- تشخیصی معیار

- سیکھنے والے مواصلاتی پیکر کے ہر مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- سیکھنے والے کردار ادا کرنے میں فعال سننے، وضاحت، اور مناسب فیڈبیک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- سیکھنے والے مہمان کی قسم اور سیاق و سباق کے مطابق مواصلاتی انداز کو اپناتے ہیں۔

ویٹر سروس لیبلز

تعارف

ویٹر سروس میں آداب پیشہ ورانہ مہارت، مہمانوں کی آرام دہانی، اور خوشگوار کھانے کے تجربات کو یقینی بناتے ہیں۔ تکنیکی مہارتوں سے آگے، مناسب آداب، توجہ، اور رازداری ایک عام سرور کو غیر معمولی سرور سے ممتاز کرتی ہے۔

1. ضمیر کی خدمت

بیان:

ایک پیشہ ور ویٹر مہمانوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے بغیر مداخلت کے۔ مہمان توقع کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیٹھیں، انہیں فوراً تسلیم کیا جائے گا، چاہے آپ انہیں فوراً سرو نہ کر سکیں۔ جسمانی زبان پڑھنا صحیح سطح کی مشغولیت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔

شقیں:

- مہمانوں کو فوری طور پر سر بلاؤ، مسکراہٹ یا سلام کے ذریعے تسلیم کریں۔
- سروس اسٹائل کو ایڈجسٹ کریں:
 - باتونی مہمانوں → دوستانہ اور گفتگو کرنے والا انداز۔
 - خاموش مہمان → احترام، کم سے کم بات چیت۔
- ضروریات کا اندازہ لگائیں (پانی بھرنا، پیچ بدلنا، مصالحوں جات پیش کرنا)۔

2. ہیڈلنگ کے مسائل

بیان:

مہمان نوازی میں غلطیاں اور شکایات فطری ہیں۔ ویٹر کا رد عمل مہمان کے مجموعی تاثر کو متعین کرتا ہے۔ بہانے، الزام تراشی یا دفاعی رویے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ ذمہ داری، معافی اور فوری حل ہے۔

شقیں:

- کبھی بھی باوجودی خانے کے عملے، ساتھیوں یا مہمان کو الزام نہ دیں۔
- پرسکون، پیشہ ورانہ اور ہمدرد رہیں۔
- شائستہ جواب دیں جیسے: "میں معذرت خواہ ہوں۔ میں تمہارے لیے یہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟"
- مسائل کو جلدی حل کریں (برتن تبدیل کریں، اگر ضرورت ہو تو سپروائزر کے پاس بات کریں)۔

3. برتن اور چاندی کے برتن

بیان:

برتنوں، شیشے کے برتنوں اور کٹلری کو مناسب طریقے سے سنبھالنا صفائی، پیشہ ورانہ رویے اور مہمانوں کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ لاپرواہی سے ہینڈلنگ آلودگی، رساؤ یا تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔

شقیں:

- صحیح طرف سے سرو اور کلینر کریں (عام طور پر دائیں ہاتھ سے سرونگ کے لیے، بائیں ہاتھ سے کلینر کے لیے، جب تک کہ ہاؤس رولز مختلف نہ ہوں)۔
- مہمان کے پار ہاتھ نہ بڑھائیں۔
- صرف اس وقت پلیٹیں صاف کریں جب تمام مہمان ختم کر چکے ہوں۔
- میز پر پلیٹیں ایک دوسرے پر رکھنے سے گریز کریں۔ ٹرے یا آرم اسٹیکنگ استعمال کریں۔
- کٹلری اور شیشے کے برتن کو تنے سے سنبھالیں اور ہینڈلز کبھی بھی کناروں یا کھانے کی سطحوں کو نہ چھوئیں۔

4. اضافی غور و فکر

بیان:

پیشہ ورانہ رویہ ذاتی پیشکش، بات چیت، اور مہمانوں کے تاثر کو متاثر کرنے والی باریک تفصیلات تک بھی پھیلا ہوا ہے۔

نکات:

- آرڈر لینے کے سلسلے کی ہاؤس پالیسی سے آگاہ رہیں (روایتی طور پر، خواتین پہلے)۔
- مہمانوں کی سماعت میں ذاتی گفتگو سے گریز کریں۔
- اچھی صفائی اور صفائی کا خیال رکھیں:
 - تیز خوشبوؤں سے پرہیز کریں۔
 - محتاط اور پیشہ ورانہ لباس پہنیں۔
 - سگریٹ نوشی کے وقفے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور سانس تازہ کریں۔
- ثقافتی حساسیت کا احترام کریں اور غیر جانبدار، شائستہ رویہ برقرار رکھیں۔

ٹرینر نوٹس

- رول پلے مہمانوں کے تعاملات کے منظر نامے: باتونی مہمان بمقابلہ خاموش مہمان۔
- مہمانوں کی شکایات کو شائستہ طریقے سے حل کرنے کی مشق کریں۔

- ٹرے اور شیٹے کے برتنوں کے ساتھ صحیح صفائی اور سرو کرنے کی تکنیکیں دکھائیں۔

تشخیصی معیار

- علم: سروس کے حالات میں درست آداب کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: برتنوں اور شیٹے کے برتنوں کی صفائی اور پیشہ ورانہ ہینڈلنگ کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- رویہ: مختلف مہمانوں کی اقسام کے ساتھ شائستگی، رازداری، اور لچک دکھاتا ہے۔

ویٹر/سروور کے لیے ضروری مہارتیں

تعارف

فوڈ لینڈ بیورج (F&B) انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے، ویٹر/سروور کو تکنیکی علم، عملی سروس مہارتوں، اور ذاتی خصوصیات (سافٹ اسکلز) کا توازن درکار ہوتا ہے۔ مہارتیں نہ صرف کاموں کی کارکردگی کو یقینی بناتی ہیں بلکہ مہمانوں کے مثبت تجربات پیدا کرنے، دباؤ کو سنبھالنے، اور پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی یقینی بناتی ہیں۔

ا. علم اور تکنیکی مہارتیں

1. ہا سپیٹیلیٹی اور کیئرنگ انڈسٹری کو سمجھنا
 - مختلف سروس اسٹانڈرز (عمدہ کھانے، کیڑول، بونے) کا علم۔
 - صنعت کے رجحانات اور مہمانوں کی توقعات سے آگاہی۔
2. ذاتی صفائی، ظاہری شکل اور صفائی
 - ہر وقت پیشہ ورانہ انداز برقرار رکھیں۔
 - سخت صفائی کے معیار (صاف ہاتھ، یونیفارم، بالوں کی دیکھ بھال) پر عمل کریں۔
3. بنیادی فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی رسپانس
 - کام کی جگہ کی حفاظت کے طریقہ کار کا علم۔
 - ہنگامی حالات (معمولی چوٹیں، بے ہوشی) میں مدد کرنے کی صلاحیت۔
4. محفوظ خوراک کی ہینڈلنگ اور HACCP اصول
 - آلودگی، کراس کانٹیکٹ اور خراب ہونے سے بچائیں۔
 - جہاں ممکن ہو HACCP کے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔
5. صحت اور حفاظت کے طریقے
 - صحیح لفٹنگ تکنیک استعمال کریں، سامان کو محفوظ طریقے سے سنبھالیں۔
 - سروس ایریاز کو خطرات سے پاک رکھیں۔
6. پیشہ ورانہ آؤٹ لیٹ کے معیار کو برقرار رکھیں
 - کھانے کے علاقوں کو صاف، منظم اور مہمانوں کے لیے تیار رکھیں۔
 - شفٹ سے پہلے اور بعد میں میزے این پلیس پر پیلٹسز اپنائیں۔
7. مواصلات اور سماجی مہارتیں

- مہمانوں کے ساتھ مہذب بات چیت۔
- ساتھیوں سے رابطے میں فعال سننا اور وضاحت۔
- 8. سروس ایباز کی تیاری اور صفائی
- سروس سے پہلے کھانے کے علاقے تیار کریں۔
- ٹیبلز کو ڈیٹر طریقے سے صاف اور ری سیٹ کریں۔
- 9. کھانا اور مشروبات پیش کرنا
- کھانے، سنیکیں اور مشروبات درست طریقوں سے پیش کریں۔
- برتن، کٹلری اور ٹرے کو پیشہ ورانہ طور پر سنبھالیں۔
- کاروری / بوفے سروس فراہم کریں
- 10. بوفے پر پوزیشن اور ری پلڈیشن کو منظم کریں۔
- گوشت کو کائیں اور حصوں کو ڈیٹر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- ڈیٹر مہمان خدمات فراہم کریں
- 11. گرجوشی سے سلام کریں، احکامات سنبھالیں، شکایات حل کریں۔
- کھانے کے تجربے کے دوران مہمانوں کی نسلی کو یقینی بنائیں۔
- مکمل فوڈ آؤٹ لیٹ شہتر ڈیٹر طریقے سے
- 12. شفٹ کے اختتام پر ذمہ داریاں سنبھالیں: صفائی، اسٹاک چیک، رپورٹنگ۔
- اختتامی طریقہ کار میں ٹیم ورک کی حملت کریں۔

ب. سافٹ اسکلز (ذاتی خصوصیات)

ہر مہارت کی تفصیلات (چارٹ کے اندر):

اوپر دی گئی ہر مہارت کے ساتھ چارٹ میں ایک مختصر وضاحت یا کلیدی لفظ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر:

- ٹیم پلیئر: "تعاون کرنے والا، معاون"
- کام کی اخلاقیات: "دیانت داری، ایمانداری"
- وقت کا انتظام: "ترجیحات، ڈیڈ لائنز"
- خدمت کے آداب: "شائستگی، احترام"
- پیشہ ورانہ مہارت: "معیارات، رویہ"
- ملٹی ٹاسکنگ: "بیک وقت کام"
- دباؤ کے تحت کام: "پرسکون، موثر"
- بین شخصی مہارتیں اور مواصلات: "تعلقات، واضح رابطہ"
- مثبت رویہ: "جوش، امید"
- ہدایات پر عمل کرنے کی صلاحیت: "جوابدہ، تعمیل کرنے والا"
- سیکھنے کی مہارتیں: "پیکدار اور تیز سیکھنے والا"
- ہم آہنگی: "موثر ورک فلو"
- جذبہ: "حقیقی دلچسپی"
- صبر اور استقامت: "سکون، استقامت"
- زبردست برداشت: "جسمانی برداشت"

- ثقافتی، اقلیتی اور صنفی حساسیت: "احترام، تنوع"
- پائیداری سے آگاہی: "ماحول دوست طریقے"
- کسٹمر سروس کی مہارتیں: "یادگار تجربات"
- ظاہری شکل: "صاف، پروفیشنل"

مہمان نوازی کی نرم مہارتیں



ٹریینر نوٹس

- سیکھنے والوں کے لیے ایک مہارت کی چیک لسٹ بنائیں تاکہ وہ خود جانچ سکیں۔
- رول پلے کا استعمال کریں تاکہ بات چیت، ٹیم ورک، اور مسئلہ حل کرنے کی جانچ کی جاسکے۔
- وقت کے انتظام اور ملٹی ٹاسکنگ کا جائزہ لینے کے لیے ماک شفٹس کا انتظام کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: خوراک و مشروبات کے معیارات، صفائی، HACCP، اور مہمانوں کی خدمت کے قواعد کی وضاحت کرتا ہے۔
- مہارتیں: محفوظ خوراک سنبھالنے، سروس کی تکنیکیں، اور آؤٹ لیٹ کے طریقہ کار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- رویہ: ٹیم ورک، صبر، پیشہ ورانہ رویہ اور مہمان مرکوز رویہ ظاہر کرتا ہے۔

لرننگ یونٹ 1.2.6: ریسٹورانوں میں وقت کا انتظام اور دباؤ سنبھالنا

تعارف

ریستوران کی صنعت کارکردگی اور صارفین کی اطمینان پر پروان چڑھتی ہے۔ مصروف اوقات میں، عملے کو رفتار اور معیار کے درمیان توازن رکھنا ہوتا ہے۔ مہمان فوری سروس کی توقع رکھتے ہیں بغیر کھانے کے معیار، پیشکش یا آداب پر سمجھوتہ کیے۔ وقت کے انتظام اور دباؤ کو سنبھالنے کی تکنیکوں میں مہارت حاصل کرنے سے F&B عملے کو دباؤ میں بھی مسلسل اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

توازن: رفتار بمقابلہ معیار

- رفتار: مہمان سروس یا کھانے کے لیے زیادہ دیر انتظار کرنا پسند نہیں کرتے۔
- معیار: جلد بازی غلطیاں کر سکتی ہے (غلط آرڈرز، ناقص پیشکش)۔
- توازن: وقت پر خدمت کرنا اور درستگی اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے اعتماد اور کاروبار کو دہرایا جاتا ہے۔

دوڑ وقت کے انتظام کی تکنیکیں

1. ترجیحات
 - فوراً گرم کھانا پیش کریں۔
 - نئے مہمانوں کے لیے میزیں جلدی صاف کریں۔
2. تنظیم
 - ٹرے، کٹلری اور POS تیار رکھیں۔
 - انجھن سے بچنے کے لیے جدول کے نمبر واضح طور پر تفویض کریں۔
3. وفد
 - ویٹرز، بسرز، اور کچن اسٹاف کے درمیان کام بانٹیں۔
 - ایک ٹیم ممبر پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے بچیں۔
4. ہینڈلنگ (کاموں کو مرحلہ وار کھٹا کرنا)
 - ایک ساتھ کئی ڈرنکس آرڈر لیں۔
 - وقت بچانے کے لیے ہلتے جلتے کاموں کو گروپ کریں۔
5. منصوبہ بندی
 - شفٹ کا آغاز ایک مختصر ٹیم ہڈل سے کریں تاکہ ذمہ داریاں تقسیم کی جا سکیں۔
 - ریزرویشنز اور متوقع مصروف اوقات کا جائزہ لیں۔

دباؤ سنبھالنے کی تکنیکیں

- سانس لینے کی تکنیکیں: مشکل کاموں سے پہلے گہری سانسیں لینا اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔
- ٹیم ورک: مدد مانگیں؛ رش آورز میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
- دباؤ میں پرسکون رہیں: حل پر توجہ دیں، گھبراہٹ میں نہیں۔
- مثبت خود گفتگو: اپنی مہارتوں اور ماضی کی کامیابیوں کو یاد دلائیں۔
- وقفے: مختصر آرام توانائی اور توجہ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

ٹریننگ سیمولیشن: "مصروف ریسٹورنٹ رش"

سیکھنے والے متعدد میزوں، مطالبہ کرنے والے گاہکوں، اور غیر متوقع مسائل (جیسے غائب اشیاء، شکایات) کے ساتھ پیک سروس کی نقل کرتے ہیں۔

سیمولیشن کے دوران، سیکھنے والوں کی مشق:

- ترجیحات
- تنظیم
- وفد
- واضح مواصلات
- پرسکون رہنا

ڈمی بریف: (بعد از جائزہ نشست ٹرینر اس بات پر گفتگو کی قیادت کرتے ہیں کہ کیا اچھا رہا، کیا بہتر ہو سکتا ہے، اور کیا سبق سیکھے گئے۔

F&B شفٹس میں وقت کے انتظام کے لیے فلو چارٹ

یہ دستاویز خوراک اور مشروبات (F&B) اداروں میں کام کرنے والے عملے کے لیے وقت کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک فلو چارٹ کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ فلو چارٹ شفٹ کے دوران کام سنبھالنے کے لیے ایک منظم طریقہ فراہم کرتا ہے، ابتدائی تیاری سے لے کر مہمان کے روانگی تک، تاکہ کارکردگی اور صارفین کی اطمینان یقینی بنائی جاسکے۔ یہ ملازمین کے لیے ایک بصری رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ کاموں کو ترجیح دے سکیں، اپنا وقت مؤثر طریقے سے منظم کریں، اور اپنی شفٹ کے دوران روانی سے کام جاری رکھیں۔

شفٹ کا آغاز

شفٹ شروع ہوتی ہے! یہ تمام بعد کے اقدامات کے لیے نقطہ آغاز ہے۔

جائزہ کے کام

شفٹ شروع کرتے وقت، پہلا ہم قدم تمام تفویض کردہ کاموں کا جائزہ لینا ہے۔ اس میں دن کے خصوصی کھانوں کو سمجھنا، مینیجر کی کسی بھی مخصوص ہدایات، اور وہ پری شفٹ فرائض شامل ہیں جن پر فوری توجہ درکار ہو۔ یہ جائزہ مؤثر ترجیحات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔

ترجیحات مقرر کریں

ٹاسک ریویو کی بنیاد پر، کاموں کو فوری اور اہمیت کے مطابق ترجیح دیں۔ ایسے عوامل پر غور کریں جیسے آنے والی ریزرویشنز، ممکنہ رش آورز، اور وہ کام جو براہ راست کسٹمر سروس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مؤثر ترجیح دینے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ سب سے اہم کام بروقت حل کیے جائیں، تاخیر کو کم سے کم اور کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔

اسٹیشن تیار کریں

مہمانوں کے آنے سے پہلے ورک اسٹیشن تیار کریں۔ اس میں ضروری سامان (نیکلز، کنٹری، مصالحہ جات)، صفائی کو یقینی بنانا، اور تمام آلات کی صحیح کارکردگی کی تصدیق شامل ہے۔ ایک اچھی طرح تیار شدہ اسٹیشن آپریشنز کو آسان بناتا ہے اور سروس کے دوران اشیاء کی تلاش میں لگنے والے وقت کو کم کرتا ہے۔

مہمان آتا ہے

مہمان کی آمد براہ راست سروس سائیکل کی شروعات کی علامت ہے۔

سلام / نشست

مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کریں اور انہیں فوراً بٹھائیں۔ مقررہ نشستوں کے پروٹوکول پر عمل کریں اور کسی بھی خاص درخواست، جیسے نشست کی ترجیحات یا رسائی کی ضروریات، کو پورا کریں۔ ایک مثبت ابتدائی ملاقات خوشگوار کھانے کے تجربے کے لیے ماحول قائم کرتی ہے۔

آرڈر لے لو

مہمان کا آرڈر درست اور مؤثر طریقے سے لیں۔ سفارشات فراہم کریں، مینو کے بارے میں سوالات کے جواب دیں، اور کسی بھی غذائی پابندیوں یا الرجی کو نوٹ کریں۔ واضح رابطہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کچن کو درست آرڈر لے، جس سے غلطیاں اور تاخیر کم ہوتی ہے۔

باورچی خانے کو بھیجیں

آرڈر کو کچن کو فوری اور درست طریقے سے پہنچائیں۔ مخصوص آرڈر انٹری سسٹم استعمال کریں اور تصدیق کریں کہ تمام تفصیلات درست ہیں۔ بروقت آرڈر جمع کروانے سے کچن کے عملے کو بغیر تاخیر کے کھانا تیار کرنا شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مشروبات / سائیز سرو کریں

جب مین کورس تیار ہو رہا ہو، تو مشروبات اور اس کے ساتھ آنے والے سائیز پیش کریں۔ یقینی بنائیں کہ مشروبات بروقت پیش کیے جائیں اور سائیز کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ مہمان کو مصروف اور مطمئن رکھتا ہے جب وہ اپنے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔

کھانا پیش کریں

جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے مہمان کو فوری اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش کریں۔ ڈشز کو خوبصورت انداز میں پیش کریں اور یقینی بنائیں کہ ہر مہمان کو درست آرڈر لے۔

کسی بھی فوری ضرورت، جیسے اضافی مصالحہ جات یا برتن، چیک کریں۔

مہمان سے دریافت کریں

کھانا پیش کرنے کے بعد، وقتاً فوقتاً مہمان کی حالت چیک کریں تاکہ ان کی تسکین یقینی بنائی جاسکے۔ پوچھیں کہ کیا سب کچھ ان کی پسند کے مطابق ہے اور کسی بھی خدشے یا درخواست کو فوری طور پر حل کریں۔ توجہ دینے والی سروس کھانے کے تجربے کو بہتر بناتی ہے اور صارفین کی وفاداری کو فروغ دیتی ہے۔

کلئیر ٹیبل

جب مہمان کھانا ختم کر لے، تو میز کو مؤثر طریقے سے صاف کریں۔ استعمال شدہ پلیٹیں، کنٹری اور شیشے کے برتن ہٹا کر میز کی سطح صاف کریں۔ صاف اور صاف ستھرا میز لگے مہمان کے لیے زیادہ خوشگوار ماحول فراہم کرتا ہے۔

موجودہ بل

بل مہمان کو فوری اور خاموشی سے پیش کریں۔ یقینی بنائیں کہ بل درست اور سمجھنے میں آسان ہو۔ چارجز کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب دیئے اور ادائیگی کے اختیارات فراہم کرنے کی پیشکش کریں۔

ادائیگی کا عمل

مہمان کی ادائیگی کو تیزی اور درستگی سے پروسیس کریں۔ ادائیگی کے پراسیسنگ کے پہلے سے طے شدہ طریقہ کار پر عمل کریں اور رسید فراہم کریں۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور انہیں خوشگوار دن کی دعا دیں۔

شکریہ مہمان

مہمان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے یہ جگہ منتخب کی۔ مخلصانہ شکریہ ایک مثبت اور دیرپا تاثر چھوڑتا ہے اور بار بار کاروبار کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔


ری سیٹ ٹیبل

اگلے مہمان کے لیے میز کو صاف کپڑوں، کنٹری اور شیشے کے برتنوں سے دوبارہ ترتیب دے کر تیار کریں۔ یقینی بنائیں کہ میز صاف اور قابل قبول ہو۔ ایک اچھی طرح سے ترتیب دی گئی میز آنے والے مہمانوں کے لیے خوش آمدید کہنے والا ماحول پیدا کرتی ہے۔

دوہرانا

ہر لگے مہمان کے لیے "مہمان پہنچتا ہے" سے "میز ری سیٹ کریں" تک کا چکر دہرائیں۔ یہ مسلسل لوپ پورے شفٹ کے دوران مسلسل سروس اور مؤثر ورک فلو کو یقینی بناتا ہے۔

ایف اینڈ بی شفٹوں میں وقت کا انتظام



لرنگنگ پونٹ 1.2.7: تنظیمی ثقافت کو سمجھنا

ہر ہوٹل یا ریسٹوران کی اپنی ثقافت، اقدار، روایات، اور توقعات ہوتی ہیں جو سروس اسٹائل کو تشکیل دیتی ہیں۔

مثالیں:

- عمدہ کھانا = رسمی، خاموش سروس اسٹائل۔

- آرام دہ کیفے = دوستانہ، گفتگو جیسا لہجہ۔

عملے کو ثقافت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا تاکہ برانڈ کی مستقل شناخت برقرار رکھی جاسکے۔

ٹریینرز نوٹس: تنظیمی ثقافتوں کا موازنہ مثالوں کے ذریعے کریں (لگژری ہوٹل بمقابلہ فاسٹ فوڈ چین)۔

لرنگنگ پونٹ 1.2.8: مہمان مرکزیت کے رویے کی اہمی

پیشہ ورانہ رویے کے مرکز میں مہمان کو پھیلے رکھنے کا طریقہ ہے۔ عملے کو ضروریات کا اندازہ لگانا چاہیے، مسائل حل کرنے ہوں گے، اور مہمانوں کی اطمینان کو یقینی

بنانا ہوگا۔

اصول:

- فعال طور پر سنیں اور مثبت رد عمل دیں۔

- اضافی محنت کریں (مثلاً، کسی مہمان کو پانی پیش کرنا)۔

- شکایات کو نرمی سے سنبھالیں اور کبھی بحث نہ کریں۔

- ہر مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو۔

ٹریزن نوٹس: رول پلے: ایک مہمان سست سروس کی شکایت کرتا ہے۔ سیکھنے والے پرسکون اور حل پر مرکوز رد عمل کی مشق کرتے ہیں۔

عملی سرگرمیاں (PU) انضمام

- عملی یونٹ 1.1: گرومنگ اور پری شفٹ چیکس لرننگ یونٹ 1.2.3 سے منسلک ہیں۔
- عملی یونٹ 1.2: مہمانوں کے تعامل کی سیمولیشنز لرننگ یونٹ 1.2.2، لرننگ یونٹ 1.2.5، لرننگ یونٹ 1.2.8 سے لنک کریں۔
- عملی یونٹ 1.3: کام کی جگہ کی اخلاقیات کا کردار ادا کرنا لرننگ یونٹ 1.2.4 سے لنک ہے۔
- عملی یونٹ 1.5: ماک شفٹ جس میں جائزہ لرننگ یونٹ 1.2.6 اور لرننگ یونٹ 1.2.7 کو کور کرتا ہے۔

تشخیصی معیار

- علم: پیشہ ورانہ مہارت، اخلاقیات، اور تنظیمی ثقافت کی تعریف کرتا ہے۔
- مہارتیں: مناسب گرومنگ، مواصلات، اور وقت کے انتظام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- رویہ: مہمان کو اولین ترجیح دینا، دباؤ میں سکون، ساتھیوں کے لیے احترام۔

ماڈیول 2: بین شخصی مہارتوں کی ترقی

ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

- زبانی اور غیر زبانی مہارتوں کے ذریعے مؤثر طریقے سے بات چیت کریں۔
- مہمانوں اور ٹیم کے تعاملات میں فعال سننے کا مظاہرہ کریں۔
- ہاسپیٹلٹی کے ماحول میں ٹیم ورک اور تنازعہ حل کرنے کی مہارتیں اپنائیں۔
- کام پر جذباتی ذہانت اور اعتماد کی مشق کریں۔
- بین شخصی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک ذاتی عملی منصوبہ تیار کریں۔

لرننگ یونٹ 2.1: مہمان نوازی کی صنعت میں مواصلاتی مہارتوں کو فروغ دینا اور استعمال کرنا

بیان:

مہمان نوازی میں، مواصلات خدمت کی جان ہے۔ چاہے مہمان کا استقبال کرنا ہو، آرڈر لینا ہو، یا ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہو، مواصلات ہموار سروس اور مہمانوں کی تسلی کو یقینی بناتی ہے۔ بات چیت صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ لہجہ، جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات، اور اشارے شامل ہیں۔ ایک گرم مسکراہٹ، توجہ سے سننا، اور شائستہ لہجہ عام مہمان کے تجربے اور بہترین تجربے میں فرق پیدا کر سکتا ہے۔

مؤثر مواصلات غلطیوں کو بھی کم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، مہمان کے آرڈر کو دہرانا درستگی کو یقینی بناتا ہے، جبکہ کچن کی واضح ہدایات تاخیر کو روکتی ہیں۔ اچھی بات چیت ٹیم ورک کی بھی مدد کرتی ہے، جو عملے کو مصروف شیفوں میں ایک یونٹ کے طور پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔


شقیں:

- رابطہ = مہمانوں کی تسلی اور ٹیم ورک کی کلید۔
- اس میں لفظی (الفاظ) + غیر زبانی (اشارے، لہجہ) شامل ہیں۔
- درست بات چیت غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔
- اعتماد پیدا کرتا ہے اور مثبت ماحول پیدا کرتا ہے۔

عملی پونٹس (PUs)

عملی پونٹ 2.1: بین الاشخاصی مواصلات کی بنیادیں

یہ دستاویز بین الاشخاص مواصلات کے بنیادی اصولوں کا تعارف کراتی ہے، خاص طور پر مہمان نوازی کی صنعت کے تناظر میں۔ یہ مواصلاتی چکر کو بیان کرتا ہے، شائستگی، احترام اور وضاحت کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور مؤثر تعاملات کو یقینی بنانے کے لیے شور کو کم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔



مواصلاتی چکر

مواصلات ایک متحرک اور چکر دار عمل ہے جس میں کئی اہم اجزاء شامل ہیں۔ اس چکر کو سمجھنا مؤثر بین الاشخاصی تعاملات کے لیے نہایت اہم ہے، خاص طور پر تیز رفتار اور صارف مرکز ماحول جیسے با سیٹیلیٹی میں۔ یہ چکر درج ذیل عناصر پر مشتمل ہوتا ہے:

- **مجھنے والا:** مجھنے والا وہ فرد یا ادارہ ہے جو مواصلات کا آغاز کرتا ہے۔ ان کے پاس کوئی خیال، خیال یا احساس ہوتا ہے جو وہ کسی اور کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھنے والا پیغام کو اس انداز میں انکوڈ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وصول کنندہ اسے سمجھ سکے۔ اس میں مناسب الفاظ، لہجہ اور غیر زبانی اشارے منتخب کرنا شامل ہے۔
- **پیغام:** پیغام وہ معلومات یا مواد ہے جو مجھنے والے سے وصول کنندہ کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ زبانی (بولی یا تحریری الفاظ) یا غیر زبانی (جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات، اشارے) ہو سکتا ہے۔ پیغام واضح، مختصر اور وصول کنندہ کی ضروریات اور سمجھ بوجھ کے مطابق ہونا چاہیے۔
- **وصول کنندہ:** وصول کنندہ وہ فرد یا ادارہ ہے جو مجھنے والے سے پیغام وصول کرتا ہے۔ ان کا کردار پیغام کو سمجھنا اور اس کے معنی کو اپنے علم، تجربات اور سیاق و سباق کی بنیاد پر سمجھنا ہے۔ مؤثر مواصلات کے لیے وصول کنندہ کو زبانی اور غیر زبانی اشاروں کو فعال طور پر سننا اور ان پر توجہ دینا ضروری ہے۔

- فیڈبیک: فیڈبیک وصول کنندہ کا بھیجنے والے کے پیغام پر رد عمل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آیا پیغام وصول کیا گیا، سمجھا گیا، اور قبول کیا گیا۔ فیڈبیک زبانی ہو سکتا ہے (جواب، سوال، یا تبصرہ) یا غیر زبانی (سر بلانا، مسکراہٹ، یا تیوری چڑھانا)۔ یہ بھیجنے والے کو اپنی مواصلات کی مؤثریت کا اندازہ لگانے اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فیڈبیک لوپ مواصلاتی چکر کو مکمل کرتا ہے، جس سے معلومات اور سمجھ بوجھ کا مسلسل تبادلہ ممکن ہوتا ہے۔

شائستگی، احترام، اور وضاحت کی اہمیت

مہمان نوازی کی صنعت میں، جہاں صارفین کی تسلی سب سے اہم ہے، شائستگی، احترام اور وضاحت نہ صرف مطلوبہ خصوصیات ہیں بلکہ مؤثر رابطے کے لیے لازمی تقاضے ہیں۔

- شائستگی: شائستگی میں شائستہ زبان کا استعمال، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، اور سماجی آداب کی پابندی شامل ہے۔ "براہ کرم،" "شکریہ،" اور "آپ خوش آمدید" جیسے جملے استعمال کرنے سے صارف کے تجربے کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے اور مثبت تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ شائستگی فعال سننے، مداخلت سے بچنے، اور دوسرے شخص کے نقطہ نظر میں حقیقی دلچسپی دکھانے تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔
- احترام: احترام میں دوسرے شخص کی قدر، وقار اور رائے کو تسلیم کرنا اور اس کی قدر کرنا شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے ساتھ شائستگی اور خیال سے پیش آنا، چاہے ان کا پس منظر، مرتبہ، یا عقائد کچھ بھی ہوں۔ مہمان نوازی جیسے متنوع ماحول میں، ثقافتی اختلافات اور انفرادی ترجیحات کا احترام کرنا تعلق قائم کرنے اور مثبت تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہے۔
- وضاحت: وضاحت سے مراد معلومات کو واضح، مختصر اور آسانی سے سمجھنے والے انداز میں پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اس میں سادہ زبان استعمال کرنا، اصطلاحات یا تکنیکی اصطلاحات سے گریز کرنا، اور خیالات کو منطقی طور پر منظم کرنا شامل ہے۔ با سپیلیٹی میں، وضاحت درست معلومات فراہم کرنے، مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ صارفین خود کو باخبر اور قابل قدر محسوس کریں۔

مواصلات میں شور کو کم سے کم کرنا

مواصلات میں "شور" سے مراد کوئی بھی عنصر ہے جو پیغام کی درست ترسیل یا وصولی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، جن میں شامل ہیں:

- جسمانی شور: بیرونی خلفشار جیسے تیز آوازیں، خراب روشنی، یا غیر آرام دہ درجہ حرارت وصول کنندہ کے لیے پیغام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل بنا سکتے ہیں۔

• نفسیاتی شور: اندرونی خلفشار جیسے دباؤ، بے چینی، یا پہلے سے قائم خیالات وصول کنندہ کی پیغام کو درست طور پر سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

• معنوی شور: زبان، الفاظ یا ثقافتی سمجھ میں فرق غلط فہمیوں اور غلط تشریحات کا باعث بن سکتا ہے۔

• جسمانی شور: جسمانی معذریاں جیسے سماعت کا نقصان یا بصارت کی خرابی وصول کنندہ کی پیغام کو مؤثر طریقے سے وصول کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔

شور کو کم کرنے اور مؤثر رابطے کو یقینی بنانے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ:

• مناسب ماحول کا انتخاب کریں: ایسا پرسکون اور آرام دہ ماحول منتخب کریں جو کم سے کم خلفشار کو محسوس کرے۔

• واضح اور مختصر زبان استعمال کریں: اصطلاحات، تکنیکی اصطلاحات اور مبہم زبان سے گریز کریں۔

• غیر زبانی اشاروں سے آگاہ رہیں: جسمانی زبان، ہرے کے تاثرات، اور آواز کے لہجے پر توجہ دیں۔

• فعال طور پر سنیں: مقرر پر توجہ مرکوز کریں، وضاحتی سوالات پوچھیں، اور فیڈبک دیں تاکہ سمجھ بوجھ یقینی بنائی جاسکے۔

• ہمدرد رہیں: دوسرے شخص کے نقطہ نظر پر غور کریں اور ان کی ضروریات اور خدشات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

مواصلاتی چکر کو سمجھ کر، شائستگی، احترام اور وضاحت کو ترجیح دے کر، اور شور کو کم کر کے، مہمان نوازی کی صنعت میں افراد مؤثر بین شخصی رابطے کو فروغ دے سکتے ہیں، گاہکوں اور ساتھیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور ایک مثبت اور پیداواری کام کے ماحول میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔

عملی پونٹ 2.2: زبانی اور غیر زبانی مواصلات

خدمت میں زبانی اور غیر زبانی مواصلات کی اہمیت

یہ دستاویز مؤثر سروس فراہم کرنے میں زبانی اور غیر زبانی مواصلات کے اہم کردار کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ دونوں قسم کی مواصلات اعتماد قائم کرنے اور سروس فراہم کنندگان اور صارفین کے درمیان واضح سمجھ بوجھ کو یقینی بنانے میں کس طرح مددگار ہیں۔ دستاویز اس بات پر زور دیتی ہے کہ مخلوط پیغامات سے بچا جاسکے اور مجموعی سروس کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے زبانی اور غیر زبانی اشاروں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔

زبانی مواصلات کو سمجھنا

زبانی ابلاغ میں الفاظ، چاہے وہ بولے گئے ہوں یا تحریری طور پر، پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم معلومات شیئر کرتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے خیالات کو بیان کرتے ہیں۔ سروس کے تناظر میں، زبانی مواصلات میں گاہک سے ملاقات سے لے کر کسی پروڈکٹ کی وضاحت یا شکایت حل کرنے تک سب کچھ شامل ہوتا ہے۔

- الفاظ: جو مخصوص الفاظ ہم منتخب کرتے ہیں وہ ہمارے پیغام کے وصول ہونے کے طریقے پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ واضح، مختصر اور باعزت زبان استعمال کرنا ابلاغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایسی اصطلاحات یا تکنیکی اصطلاحات سے گریز کریں جنہیں صارف شاید نہ سمجھ سکے۔
- تقریر: ہمارا بولنے کا انداز، لہجہ، رفتار، اور آواز کی آواز، پیغام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صاف اور معتدل رفتار سے بات کرنا یقینی بناتا ہے کہ صارف ہمیں آسانی سے سمجھ سکے۔ دوستانہ اور قابل رسائی لہجہ تعلق بنانے اور مثبت بات چیت پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
- تحریر: تحریری مواصلات، جیسے ای میلز، خطوط، اور آن لائن چیٹ، باریک بینی سے توجہ کا مستقاضی ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی تحریر گرامر کے لحاظ سے درست، منظم اور پڑھنے میں آسان ہو۔ پیشہ ورانہ اور مہذب لہجہ اختیار کریں، اور پیغام سمجھنے سے پہلے پروف ریڈ کریں۔

غیر زبانی مواصلات کو سمجھنا

غیر زبانی ابلاغ میں بغیر الفاظ کے پیغام پہنچانا شامل ہے۔ اس میں مختلف اشارے شامل ہیں، جیسے جسمانی زبان، چہرے کے تاثرات، اشارے، اور آواز کا لہجہ۔ غیر زبانی اشارے اکثر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اصل جذبات اور رویے ظاہر کر سکتے ہیں۔

- لہجہ: آواز کا لہجہ مختلف جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، جوش اور ہمدردی سے لے کر مایوسی اور بے صبری تک۔ گرمجوش اور دوستانہ لہجہ اعتماد پیدا کرنے اور گاہک کے ساتھ مثبت تعلق قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
- پوسچر: ہماری پوسچر اعتماد، کھلے پن یا دفاعی رویے کا اظہار کر سکتی ہے۔ کھلے انداز میں کھڑے ہونا یا سیدھا بیٹھنا اعتماد اور آسانی کا اظہار کرتا ہے۔ جھک کر یا بازو کراس کرنا بے رغبتی یا دفاعی رویہ ظاہر کر سکتا ہے۔
- اشارے: اشارے نکات کو اجاگر کرنے، خیالات کو واضح کرنے، یا جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قدرتی اور مناسب اشارے آپ کی بات چیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ دلچسپ بنا سکتے ہیں۔
- آنکھوں سے رابطہ: مناسب آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ توجہ دے رہے ہیں اور گاہک کی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز کو بے رغبتی یا بے ایمانی کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

تسلسل کی اہمیت

مؤثر خدمت کے لیے، زبانی اور غیر زبانی مواصلات مستقل ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارے الفاظ اور جسمانی زبان ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ہم اعتماد اور اعتبار کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تاہم، جب ہمارے زبانی اور غیر زبانی اشاروں میں عدم مطابقت ہو تو یہ الجھن پیدا کر سکتا ہے اور ہمارے پیغام کو کمزور کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر، اگر آپ کہیں "میں مدد کرنے کے لیے خوش ہوں" اور آپ کے چہرے پر تیوری چڑھائے تو گاہک آپ کے چہرے کے تاثرات پر زیادہ توجہ دے گا بجائے الفاظ کے۔ اس سے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مخلص نہیں ہیں یا آپ طنز یہ بات کر رہے ہیں۔

مسلسل رابطے کے ذریعے اعتماد قائم کرنا

زبانی اور غیر زبانی رابطے کے درمیان تسلسل صارفین کے ساتھ اعتماد قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب گاہک محسوس کرتے ہیں کہ آپ مخلص اور مخلص ہیں، تو وہ آپ اور آپ کی تنظیم پر زیادہ اعتماد کرنے کے امکانات رکھتے ہیں۔ یہ اعتماد صارفین کی اطمینان، وفاداری، اور زبانی سفارشات میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔

عملی اطلاقات

- یہاں کچھ عملی طریقے ہیں جن سے آپ سروس کے تناظر میں زبانی اور غیر زبانی مواصلات کے درمیان مطابقت کو یقینی بنا سکتے ہیں:
- اپنی جسمانی زبان سے آگاہ رہیں: اپنی جسمانی حالت، چہرے کے تاثرات، اور اشاروں پر توجہ دیں۔ یقینی بنائیں کہ وہ اس پیغام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں۔
- دھیان سے سنیں: آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سر ہلا کر، اور زبانی اشارے جیسے "میں سمجھ گیا" یا "یہ سمجھ میں آتا ہے" استعمال کر کے دکھائیں۔
- گاہک کے ساتھ ہمدردی کریں: گاہک کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دکھائیں کہ آپ ان کے خدشات کی پرواہ کرتے ہیں۔
- مثبت لہجہ استعمال کریں: گرمجوش، دوستانہ اور احترام کے ساتھ بات کریں۔
- مخلص رہیں: خود بنیں اور اپنی شخصیت کو چمکنے دیں۔ گاہک عام طور پر پہچان لیتے ہیں کہ آپ جعلی یا غیر مخلص ہیں۔

- نتیجہ

آخر میں، زبانی اور غیر زبانی دونوں مواصلات مؤثر سروس فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی مواصلات کی باریکیوں کو سمجھ کر اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنا کر، سروس فراہم کنندگان اعتماد قائم کر سکتے ہیں، صارفین کی اطمینان کو بڑھا سکتے ہیں، اور مثبت سروس فراہم کر سکتے ہیں

تجربات۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں، اس پر توجہ دینا کسی بھی سروس پر مبنی کردار میں کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔

عملی پونٹ 2.3: فعال سننے کی مہارتیں

سننا کسی بھی خدمت پر مبنی صنعت میں ایک نہایت اہم مہارت ہے، لیکن یہ خاص طور پر مہمان نوازی میں بہت اہم ہے۔ مہمان ہونٹوں، ریسٹورانوں، اور دیگر اداروں میں مخصوص ضروریات، توقعات، اور کبھی کبھار باؤسپوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی بات کو واقعی سننے کی صلاحیت، چاہے زبانی ہو یا غیر زبانی، مطمئن مہمان اور منفی جائزے میں فرق پیدا کر سکتی ہے۔

فعال سننا کوئی غیر فعال سرگرمی نہیں ہے۔ اس کے لیے شعوری کوشش اور مقرر کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مہمان کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور یہ دکھانے کے بارے میں ہے کہ ان کی تشویشات سنی جا رہی ہیں اور سنجیدگی سے لی جا رہی ہیں۔ یہاں فعال سننے کی مشق کے لیے کچھ اہم تکنیکیں ہیں:

• آنکھوں میں آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھیں:

آنکھوں کا رابطہ مواصلات کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مصروف ہیں اور بولنے والے کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ جب مہمان بول رہا ہو تو آرام دہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شدت سے گھوریں، جو کہ ناگوار ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے، ایک قدرتی اور پرسکون نظر اپنانے کی کوشش کریں جو ظاہر کرے کہ آپ ان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔

بار بار نظریں ہٹانا یا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز کرنا بے رغبتی یا حتیٰ کہ بے ادبی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس سے مہمان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی ان کی بات نہیں سن رہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ ایک تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ان کی رائے کی قدر کرتے ہیں۔

سر ہلا کر توجہ اور دلچسپی ظاہر کریں

غیر زبانی اشارے مواصلات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سر ہلانا اور دیگر غیر زبانی اشارے جیسے تھوڑا سا جھکنا یا مسکرانا، مہمان کو یہ دکھا سکتا ہے کہ آپ ان کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے اشارے مہمان کے آپ کی توجہ کو سمجھنے کے انداز میں بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔

مہمان کے بولنے کے دوران بے چینی سے ہلنا، فون دیکھنا یا دیگر توجہ ہٹانے والے رویے اختیار نہ کریں۔ یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر موجود نہیں ہیں اور آپ کی تعلقات بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بجائے، مہمان پر توجہ دیں اور غیر زبانی اشاروں سے اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔

• آرڈرز کو دہرائیں یا تصدیق کریں:

ریستوران یا بار میں آرڈرز کو درست لینا ضروری ہے۔ آرڈر کو مہمان کو دہرانا ایک سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے تاکہ آپ نے یہ یقینی بنایا ہو کہ آپ نے ایسا کر لیا

ان کی درخواستوں کو صحیح سمجھا۔ اس سے مہمان کو یہ تصدیق کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ نے انہیں صحیح سنا ہے اور کسی بھی غلط فہمی کو واضح کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مثال کے طور پر، اگر کوئی مہمان "میشز آلور اسپیڈس کے ساتھ اسٹیک" آرڈر کرے، تو آپ دہرا سکتے ہیں، "تو یہ میشر پوٹیوز اور اسپرگس کے ساتھ اسٹیک ہے۔ کیا آپ اسٹیک کو پکنے کا کوئی خاص طریقہ پسند کریں گے؟" یہ نہ صرف آرڈر کی تصدیق کرتا ہے بلکہ آپ کو اضافی معلومات جمع کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے جو مہمان کی تسلی کو یقینی بناتی ہے۔

آرڈر کی تصدیق صرف کھانے اور مشروبات تک محدود نہیں ہے۔ ہوٹل کے ماحول میں، آپ مہمان کی کمرے کی ترجیحات کی تصدیق کر سکتے ہیں، جیسے کہ "تو آپ کو ایک اونچی منزل پر شہر کا منظر پسند ہے۔ میں اس درخواست کو پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔" یہ مہمان کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کی ضروریات پر توجہ دے رہے ہیں اور انہیں ذاتی نوعیت کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

• مداخلت سے گریز کریں:

مہمان کو ہلٹے ہوئے روکنا ایک بڑی مواصلاتی غلطی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے اور آپ اپنے خیالات اور آراء کو ان کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کیا کہنے والا ہے، پھر بھی جواب دینے سے پہلے انہیں اپنی بات مکمل کرنے دینا ضروری ہے۔

کبھی کبھار مہمان کو روکنا ضروری ہو سکتا ہے، جیسے ہنگامی صورتحال میں۔ تاہم، زیادہ تر صورتوں میں، بات کرنے سے پہلے گفتگو میں قدرتی وقفے کا انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ بات کریں تو مہمان کی بات کو ضرور تسلیم کریں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔

اگر آپ غلطی سے کسی مہمان کو روک دیں تو معذرت کریں اور انہیں اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی غلطی سے آگاہ ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے پرعزم ہیں۔

ان تکنیکوں کی مشق کر کے، مہمان نوازی کے ماہرین اپنی سننے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ زیادہ مثبت اور معنی خیز بات چیت پیدا کر سکتے ہیں۔ فعال سننا نہ صرف غلطیوں اور غلط فہمیوں کو کم کرتا ہے بلکہ مہمانوں کو قدر، عزت اور قدر کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اس سے مہمانوں کی اطمینان، وفاداری، اور مثبت زبانی سفارشات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسابقتی مہمان نوازی کی صنعت میں، مہمانوں کی بات سننے کی صلاحیت ایک اہم فرق اور کامیابی کی کنجی ہو سکتی ہے۔

مہمان نوازی کی کامیابی کی بنیاد: ٹیم ورک

مہمان نوازی کی صنعت کے متحرک اور مطالبہ کرنے والے ماحول میں، ٹیم ورک صرف ایک پسندیدہ خصوصیت نہیں ہے؛ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی قائم ہوتی ہے۔ کوئی بھی فرد، چاہے اس کی صلاحیت یا مہارت کچھ بھی ہو، اکیلے ہی مہمانوں کے وہ شاندار تجربات فراہم نہیں کر سکتا جو ایک کامیاب مہمان نوازی کے کاروبار کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بجائے، ایک مربوط ٹیم کی بے جوڑ ہم آہنگی اور مشترکہ کوششیں واقعی فرق ڈالتی ہیں۔

ٹیم ورک کی تعریف: مشترکہ اہداف اور تعاون

بنیادی طور پر، ٹیم ورک دو بنیادی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے: مشترکہ مقاصد اور تعاون۔

- **مشترکہ اہداف:** ایک کامیاب ٹیم ایک مشترکہ مقصد سے متحرک ہوتی ہے، یعنی ان مقاصد کی واضح سمجھ جو وہ مل کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مہمان نوازی کے ماحول میں، اس میں بہترین کسٹمر سروس فراہم کرنا، مہمانوں کی توقعات سے بڑھ کر کام کرنا، یا صفائی اور کارکردگی کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھنا شامل ہو سکتا ہے۔ جب ٹیم کے ارکان ان مشترکہ اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ پرجوش، متحرک اور اپنی بہترین کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔

- **تعاون:** تعاون ایک فعال عمل ہے جس میں ہم آہنگی کے ساتھ مل کر ان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اس میں کھلی بات چیت، باہمی احترام، اور ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کی آمادگی شامل ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مصروف ریسٹوران میں تعاون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب بسر زیادہ دباؤ میں ہو تو ویٹر میزین صاف کرنے میں مدد کریں، یا باوجود ایک دوسرے کی مدد کریں کھانے تیار کرنے میں تاکہ بروقت سروس یقینی بنائی جاسکے۔

جب مشترکہ اہداف اور تعاون موجود ہوں، تو ٹیم ایک واحد پونٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے، اپنے اراکین کی متنوع مہارتوں اور نقطہ نظر کو استعمال کرتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانے اور شاندار نتائج حاصل کرنے کے لیے۔

تنازعہ سے گزرنا: ترقی کا راستہ

تنازعہ کسی بھی ٹیم کی حرکیات کا ناگزیر حصہ ہے، اور مہمان نوازی کی صنعت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ دباؤ والا ماحول، مختلف شخصیات، اور مہمانوں کے ساتھ مسلسل تعامل بعض اوقات اختلافات اور کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، جب تنازعہ مؤثر طریقے سے سنبھالا جائے تو ترقی اور بہتری کے لیے محرک ثابت ہو سکتا ہے۔

تنازعات کو پرسکون طریقے سے حل کرنا اور الزام سے بچنا

تنازعہ کو تعمیری انداز میں حل کرنے کی کئی ایک پرسکون، باعزت اور حل پر مبنی طریقہ اختیار کرنا ہے۔

- سکون: جب تنازعہ پیدا ہو تو پرسکون رہنا اور صورتحال کو بڑھاوا دینے سے گریز کرنا ضروری ہے۔ گہرا سانس لینا، توجہ سے سننا اور متوازن لہجے میں بات کرنا کشیدگی کو کم کرنے اور حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
- احترام: تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ احترام سے پیش آنا سب سے اہم ہے۔ حتیٰ کہ جب اختلافات شدید ہوں، ذاتی حملے، توہین یا توہین آمیز زبان سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ مسئلے پر توجہ مرکوز کرنا، فرد پر حملہ کرنے کے بجائے، پیشہ ورانہ رویے کو برقرار رکھنے اور زیادہ تعمیری مکالمے کو فروغ دینے میں مدد دے سکتا ہے۔
- الزام سے بچنا: الزام لگانا تنازعہ حل کرنے میں شاذ و نادر ہی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بجائے، یہ دفاعی رویہ اور ناراضگی پیدا کرتا ہے، جس سے باہمی طور پر قابل قبول حل تلاش کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ایک زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ تنازعے کی جڑوں کو سمجھنے اور مستقبل میں ایسے مسائل کو روکنے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔

ان اصولوں کو اپنانے سے، ٹیمیں تنازعہ کو تباہ کن قوت سے سیکھنے، ترقی، اور مضبوط تعلقات کے موقع میں تبدیل کر سکتی ہیں۔

فیڈبیک کی طاقت: مسلسل بہتری کے لیے ایک آلہ

فیڈبیک ٹیم ورک کا لازمی جزو ہے، جو انفرادی اور ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ جب فیڈبیک تعمیری انداز میں فراہم کی جائے تو ٹیم کے ارکان کو بہتری کے شعبے شناخت کرنے، ان کی مہارتوں کو بہتر بنانے اور مجموعی کامیابی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

فیڈبیک دینا: مخصوص، باعزت اور حل پر مبنی

- فیڈبیک کے اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، اسے مخصوص، باعزت اور حل پر مبنی انداز میں پیش کیا جانا چاہیے۔
- مخصوص: مبہم یا عمومی رائے اکثر مددگار نہیں ہوتی اور وصول کنندہ کو الجھن یا دفاعی محسوس کرا سکتی ہے۔ اس کے بجائے، فیڈبیک مخصوص ہونا چاہیے، اور ان ٹھوس رویوں یا اقدامات پر توجہ دینی چاہیے جنہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، "آپ کی کسٹمر سروس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے" کہنے کے بجائے، ایک زیادہ مخصوص تبصرہ یہ ہو سکتا ہے کہ "میں نے دیکھا کہ جب مہمان اپنا آرڈر سمجھا رہے تھے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا مہمان کو زیادہ قدر کا احساس دلانے اور تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔"

- احترام: فیڈبیک ہمیشہ احترام اور ہمدردی کے ساتھ دینا چاہیے۔ تنقیدی یا الزام تراشی کی زبان استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس کے بجائے، رویے یا عمل کو غیر جانبدار اور معروضی انداز میں بیان کرنے پر توجہ دیں۔ مثال کے طور پر، "تم ہمیشہ اپنی شفٹ کے پیلے دیر سے آتے ہو" کہنے کے بجائے، ایک زیادہ احترام والا تبصرہ ہو سکتا ہے "میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنی چھگلی چند شفٹوں میں دیر سے آئے ہو۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ تم وقت پر یہاں پہنچ سکو؟"

- حل پر مبنی: فیڈبیک نہ صرف بہتری کے مواقع کی نشاندہی کرے بلکہ ان شعبوں کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی فراہم کرے۔ یہ وصول کنندہ کو بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد دینے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ یہ بتائیں کہ کوئی سرور مہمانوں کو میٹھا پیش کرنا بھول رہا ہے، تو حل پر مبنی تجویز یہ ہو سکتی ہے: "شاید آپ ہر میز کو پیش کرنے کے مراحل کی ذہنی فرسٹ بنا سکتے ہیں، جس میں میٹھا پیش کرنا بھی شامل ہے۔ یہ تمہیں یاد دلانے میں مدد دے سکتا ہے کہ میٹھا باقاعدگی سے پیش کرنا ہے۔"

ان اصولوں پر عمل کر کے، فیڈبیک مسلسل بہتری کی ثقافت کو فروغ دینے اور مہمان نوازی ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔

عملی پونٹ 2.5: تعامل میں جذباتی ذہانت

جذباتی ذہانت (EI) ایک اہم مہارتیں ہیں جو افراد کو انسانی تعامل کی چھیدگیوں کو زیادہ سمجھ اور مؤثر طریقے سے سمجھنے کے قابل بناتی ہیں۔ اس میں جذبات کو سمجھنے، استعمال، سمجھنے، انتظام کرنے اور سنبھالنے کی صلاحیت شامل ہے۔ بنیادی طور پر، EI ہمیں اپنے جذبات اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے جذبات سے زیادہ آگاہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے بہتر رابطہ، مضبوط تعلقات، اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

تبادلے کے تناظر میں، خاص طور پر خدمات پر مبنی صنعتوں جیسے ہاسٹیلٹی میں، EI ایک ناگزیر اثاثہ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ EI والے عملے کے ارکان چیلنجنگ حالات کو سنبھالنے، مہمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، اور ایک مثبت اور یادگار تجربہ بنانے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ وہ دباؤ میں پرسکون رہ سکتے ہیں، مہمانوں کے خدشات کو سمجھ سکتے ہیں، اور مہمانوں اور ساتھیوں دونوں کے ساتھ تعلقات کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔

جذباتی ذہانت کے بنیادی اجزاء، جیسا کہ وہ تعامل سے متعلق ہیں، یہ ہیں:

- خود آگاہی: یہ EI کی بنیاد ہے اور اس میں اپنے جذبات کو پہچاننے اور سمجھنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ اپنے جذبات سے ہم آہنگ رہنا، یہ جاننا کہ انہیں کیا متحرک کرتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ وہ آپ کے رویے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسٹمر سروس کے ماحول میں، خود آگاہی آپ کو یہ پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کب دباؤ یا مایوسی محسوس کر رہے ہیں اور ان جذبات کو مہمانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پر منفی اثر ڈالنے سے پہلے سنبھالنے کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ

یہ جانتے ہوئے کہ بھوک لگنے پر آپ چیز چڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ باقاعدہ وقفے لے کر کھانا کھا سکتے ہیں اور مثبت رویہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔

• **خود کنٹرول:** جسے خود نظم و ضبط بھی کہا جاتا ہے، یہ جزو اپنے جذبات اور جذبات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دباؤ میں پرسکون رہنا، اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا، اور سوچ سمجھ کر رد عمل دینے کے بارے میں ہے نہ کہ جذباتی طور پر۔ مہمان نوازی میں، خود پر قابو پانا مشکل یا مطالبہ کرنے والے مہمانوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ شکایات یا تنقید کے باوجود، مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے اور مہمان کے تجربے کو محفوظ رکھنے کے لیے پرسکون اور پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھنا نہایت اہم ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مہمان تاخیر سے روم سروس آرڈر پر ناراض ہے، تو خود پر قابو پانے کی صلاحیت آپ کو ان کی تشویشات کو غور سے سننے، مخلصانہ معذرت کرنے، اور دفاعی یا بحث کرنے کے بغیر حل پیش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

• **ہمدردی:** ہمدردی دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور شیئر کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں خود کو کسی اور کی جگہ رکھنا اور دنیا کو ان کے نقطہ نظر سے دیکھنا شامل ہے۔ مہمان نوازی کی صنعت میں، مہمانوں کے ساتھ حقیقی تعلقات قائم کرنے اور ذاتی نوعیت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہمدردی نہایت اہم ہے۔ مہمان کی ضروریات، خدشات، اور توقعات کو سمجھ کر، آپ اپنے تعاملات کو ان کی مخصوص ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور ایک زیادہ معنی خیز تجربہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مہمان اکیلا سفر کر رہا ہے اور تنہا محسوس کر رہا ہے، تو ہمدردی آپ کو دوستانہ گفتگو کرنے یا مقامی سرگرمیوں کے لیے تجاویز دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔

• **تعلقات کا انتظام:** یہ جزو دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات بنانے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو شامل کرتا ہے۔ اس میں مؤثر مواصلات، تنازعات کا حل، اور ٹیم ورک شامل ہے۔ مہمان نوازی کے ماحول میں، تعلقات کا انتظام مہمانوں اور ساتھیوں دونوں کے ساتھ مثبت تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہے۔ مہمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے وفاداری میں اضافہ اور مثبت زبانی سفارشات ممکن ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح، ساتھیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ٹیم ورک، بات چیت اور مجموعی ملازمت کی اطمینان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ساتھی کے خدشات کو فعال طور پر حل کرنا یا کسی کام میں مدد فراہم کرنا ٹیم کے رشتے مضبوط کر سکتا ہے اور کام کا ماحول زیادہ معاون بنا سکتا ہے۔

عملی پونٹ 2.6: اعتماد کی تربیت

خود اعتمادی کو اس صلاحیت کے طور پر تعریف کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات، آراء اور حدود کو واضح اور احترام کے ساتھ ظاہر کر سکے، بغیر جارحیت یا غیر فعالی کے۔ اس تربیت کا مقصد افراد کو مؤثر انداز میں بات چیت، معیارات کو برقرار رکھنے، اور بین شخصی تعاملات کو اعتماد اور احترام کے ساتھ سنبھالنے کی مہارتیں فراہم کرنا ہے۔

assertiveness کو سمجھنا

پر اعتماد ہونا ایک اہم مواصلاتی مہارت ہے جو افراد کو دوسروں کے حقوق اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے لیے آواز اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ایک متوازن طریقہ ہے جو غیر فعال اور جارحیت کی انتہاؤں سے بچتا ہے، صحت مند تعلقات اور مؤثر تنازعات کے حل کو فروغ دیتا ہے۔

assertiveness کے کلیدی اجزاء

- واضح اور احترام کے ساتھ اظہار کریں: پر اعتماد بات چیت میں اپنے خیالات اور جذبات کو براہ راست اور قابل فہم انداز میں بیان کرنا شامل ہے، جبکہ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کا احترام بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے "میں" کے جملے استعمال کریں (مثلاً "میں مایوس ہوں جب..." اور الزام تراشی کی زبان سے گریز کرنا۔

****مثال:**** "تم ہمیشہ مجھے روک دیتے ہو" کہنے کے بجائے، کوشش کریں "مجھے بولنے وقت خلل محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔"

- قواعد و ضوابط کے لیے کھڑے ہوں: اعتماد آپ کو قائم شدہ اصولوں اور معیارات کی پاسداری کرنے کا اختیار دیتا ہے بغیر کسی تصادم کے۔ اس میں متوقع رویے سے انحرافات کو پرسکون اور پر اعتماد انداز میں حل کرنا شامل ہے، تاکہ ایک منصفانہ اور مستقل ماحول یقینی بنایا جاسکے۔

****مثال:**** کام کی جگہ پر صفائی کے اصولوں کی ساتھی کو مؤذبانہ یاد دلانا ایک پر اعتماد عمل ہے جو صحت مند اور باعزت ماحول کو فروغ دیتا ہے۔

- خاموش (خاموش) یا جارحانہ (دشمنی) سے گریز کریں: خود اعتمادی غیر فعال اور جارحیت کے درمیان درمیانی راستہ ہے۔

****غیر فعالیت:**** اپنی ضروریات یا رائے کے اظہار میں ہچکچاہٹ کی خصوصیت رکھتی ہے، جو اکثر ناراضگی اور پوری نہ ہونے والی ضروریات کا باعث بنتی ہے۔

****جارحیت:**** ضروریات اور آراء کا اظہار زبردستی یا دشمنانہ انداز میں کرنا شامل ہے، اکثر دوسروں کے جذبات اور حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے۔

****مثال:****

****غیر فعال:**** خاموشی سے ساتھی کے توہین آمیز مذاق برداشت کرنا۔

****جارحانہ:**** ایک ساتھی پر توہین آمیز مذاق کرنے پر چبھنا۔

****پر اعتماد:**** پرسکون انداز میں کہا، "مجھے یہ لطیفے ناگوار لگتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے سامنے یہ لطیفے نہ

سنائیں۔"

اعتماد کے فوائد

خود اعتمادی کی مہارتیں پیدا کرنا ذاتی اور پیشہ ورانہ فوائد کا باعث بن سکتا ہے:

- بہتر مواصلات: پراعتماد بات چیت وضاحت اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیتی ہے، جس سے غلط فہمیاں اور تنازعات کم ہوتے ہیں۔
- خود اعتمادی میں اضافہ: اپنے لیے کھڑا ہونا اور اپنی ضروریات کا اظہار کرنا آپ کی خود اعتمادی اور خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے۔
- مضبوط تعلقات: پراعتماد ہونا صحت مند اور باعزت تعلقات کو فروغ دیتا ہے جو باہمی سمجھ بوجھ اور واضح حدود پر مبنی ہوتے ہیں۔
- کم تناؤ: مسائل کو براہ راست اور مؤثر طریقے سے حل کر کے، خود اعتمادی غیر حل شدہ تنازعات سے جڑے دباؤ اور اضطراب کو کم کر سکتی ہے۔
- پیداواری صلاحیت میں اضافہ: کام کی جگہ پر، جرات مندی زیادہ مؤثر تعاون اور مسئلہ حل کرنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔

اعتماد کو فروغ دینے کی تکنیکیں

- "میں" کے بیانات کی مشق کریں: اپنے جذبات اور ضروریات کا اظہار کرنے کے لیے "میں" کے جملے استعمال کریں بغیر کسی کو الزام دیے یا الزام دیے۔
- واضح حدود مقرر کریں: اپنی حدود متعین کریں اور انہیں دوسروں کو واضح انداز میں بیان کریں۔
- "نہیں" کہنا سیکھیں: ان درخواستوں کو شائستگی سے رد کریں جنہیں آپ پورا کرنے کے قابل یا نااہل ہیں۔
- آنکھوں سے رابطہ برقرار رکھیں: آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اعتماد اور خلوص کا اظہار کرتا ہے۔
- پرسکون اور مستحکم لہجہ استعمال کریں: اپنی آواز بلند کرنے یا ہچکچاتے ہوئے بولنے سے گریز کریں۔
- فعال سننے کی مشق کریں: دوسروں کی باتوں پر دھیان دیں اور ان کے نقطہ نظر کو تسلیم کریں۔
- رول پلےنگ: اعتماد بڑھانے کے لیے مصنوعی مناظر میں پراعتماد بات چیت کی مشق کریں۔
- رائے حاصل کریں: اپنے قابل اعتماد دوستوں یا ساتھیوں سے اپنی بات چیت کے انداز پر رائے مانگیں۔

مختلف سیاق و سباق میں خود اعتمادی

- کام کی جگہ: پراعتماد ہونا مؤثر ٹیم ورک، تنازعات کے حل، اور کیریئر کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔
- ذاتی تعلقات: پراعتماد ہونا صحت مند اور بھرپور تعلقات کو فروغ دیتا ہے جو باہمی احترام اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہوتے ہیں۔
- سماجی حالات: اعتماد آپ کو سماجی تعلقات کو اعتماد اور وقار کے ساتھ سنبھالنے کے قابل بناتا ہے۔

عملی پونٹ 2.7: کام کی جگہ پر بین شخصی مہارتیں

بیان:

بین شخصی مہارتیں مہمان نوازی کی صنعت میں ایک پیداواری اور مثبت کام کے ماحول کی ریزہ کی ہڈی ہیں۔ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ عملے کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کرتے ہیں، سپروائزرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ ایک ایسا کام جو ملازمین مضبوط بین شخصی مہارتوں کی مشق کرتے ہیں، نہ صرف ہم آہنگ ہوتا ہے بلکہ زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے۔ فوڈ اینڈ بیورج (F&B) سروسز میں اس کا مطلب ہے ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، لچکدار ہونا، تنازعات کو خوبصورتی سے حل کرنا، اور مسلسل مہمانوں پر مرکوز رویہ اپنانا۔ مضبوط بین شخصی تعلقات اعتماد پیدا کرتے ہیں، ٹیم ورک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ایسی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں جہاں ہر کوئی خود کو عزت اور قدر کا احساس دے۔

اہم نکات:

- احترام کا رویہ: تمام ساتھیوں کے ساتھ شائستگی اور احترام دکھائیں، چاہے وہ عمدہ کچھ بھی ہو۔
- ثقافتی مطابقت: مختلف ثقافتی پس منظر اور مہمانوں کی توقعات کے مطابق رویے کو ایڈجسٹ کریں۔
- پیشہ ورانہ مہارت: ہر وقت شائستگی، واضح اور باعزت بات چیت برقرار رکھیں۔
- ٹیم اسپرٹ: مصروف سروس کے ادوار میں ساتھیوں کی مدد کریں تاکہ آپریشنز کو ہموار بنایا جاسکے۔
- تنازعہ کا حل: اختلافات کو پرسکون اور تعمیری انداز میں حل کریں بغیر سروس میں خلل ڈالے۔
- مثبت رویہ: جسمانی زبان، لہجہ اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو گرمجوشی اور اعتماد کی عکاسی کریں۔
- مہمان سب سے پہلے نقطہ نظر: مہمانوں کی اطمینان کو ترجیح دیں جبکہ ٹیم ورک اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔

عملی پونٹ 2.8: جائزہ اور ذاتی عملی منصوبہ

بین شخصی مہارتوں کو بڑھانا: ذاتی ترقی کا منصوبہ

یہ دستاویز سیکھنے والوں کو خود احتسابی اور ذاتی ترقی کے عمل سے گزارتی ہے جو بین شخصی مہارتوں کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ طاقتوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے، بہتری کے لیے SMART اہداف مقرر کرنے، اور سننے، ٹیم ورک، اور جذباتی ذہانت جیسے شعبوں میں مسلسل ترقی کے لیے مسلسل مشق اور فیڈبیک کے عزم پر زور دیتا ہے۔

خود تشخیص: طاقتیں بمقابلہ ترقی کے شعبے

اپنی بین شخصی مہارتوں کو بہتر بنانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیں۔ اپنی طاقتوں اور ان شعبوں پر غور کریں جہاں آپ کر سکتے ہیں

اصلاح کرنا۔ یہ خود جائزہ آپ کے مختلف ماحول میں دوسروں کے ساتھ آپ کے تعاملات کا کھلا جائزہ ہونا چاہیے، جن میں کام، اسکول، اور ذاتی تعلقات شامل ہیں۔

طاقوں کی شناخت:

ان حالات کے بارے میں سوچیں جہاں آپ نے اپنے تعاملات میں پراعتماد اور مؤثر محسوس کیا۔ اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھیں:

- کون سی بین شخصی مہارتیں میرے لیے قدرتی طور پر آتی ہیں؟
- دوسرے لوگ میری بات چیت کے بارے میں کس چیز کی تعریف کرتے ہیں؟
- کن حالات میں میں دوسروں کے ساتھ بات چیت میں سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتا ہوں؟
- ٹیم میں کام کرتے ہوئے میری فطری عادات کیا ہیں؟
- کیا میں فعال سننے میں اچھا ہوں؟
- کیا میں دوسروں کے لیے ہمدرد ہوں؟
- کیا میں تنازعات حل کرنے میں اچھا ہوں؟
- کیا میں اپنے خیالات کو واضح اور مختصر انداز میں بیان کرنے میں اچھا ہوں؟

طاقوں کی مثالیں یہ ہو سکتی ہیں:

- فعال سننا: آپ واقعی دوسروں کی بات سنتے ہیں اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں۔
- ہمدردی: آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا اشتراک کر سکتے ہیں۔
- واضح رابطہ: آپ اپنے خیالات کو مؤثر اور مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔
- تنازعہ کا حل: آپ اختلافات کو حل کر سکتے ہیں اور باہمی طور پر قابل قبول حل تلاش کر سکتے ہیں۔
- ٹیم ورک: آپ دوسروں کے ساتھ مؤثر تعاون کرتے ہیں تاکہ مشترکہ مقاصد حاصل کیے جاسکیں۔
- مثبت رویہ: آپ مثبت اور توجہ افزا رویہ برقرار رکھتے ہیں۔

ترقی کے شعبوں کی شناخت:

اب، ان شعبوں پر غور کریں جہاں آپ مشکل محسوس کرتے ہیں یا کم اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ ایماندار رہیں اور مخصوص رویے یا حالات کی نشاندہی کریں جنہیں آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھیں:

- کون سی بین شخصی مہارتیں مجھے چیلنجنگ لگتی ہیں؟
- مجھے دوسروں کی طرف سے اپنی بات چیت کے بارے میں کیا فیڈبیک ملا ہے؟

- کن حالات میں مجھے دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے غیر آرام دہ یا بے چینی محسوس ہوتی ہے؟
- ٹیم میں کام کرتے ہوئے میری کمزوریاں کیا ہیں؟
- کیا میں اکثر دوسروں کی بات کاٹتا ہوں؟
- کیا مجھے مختلف نقطہ نظر سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے؟
- کیا میں تنقید وصول کرتے وقت دفاعی ہو جاتا ہوں؟
- کیا مجھے اپنے جذبات کو مناسب طریقے سے ظاہر کرنے میں مشکل ہوتی ہے؟

ترقی کے شعبوں کی مثالیں شامل ہو سکتی ہیں:

- فعال سننا: آپ دوسروں کی باتوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور اکثر مداخلت کرتے ہیں۔
- ہمدردی: آپ کو دوسروں کے جذبات کو سمجھنا یا ان سے تعلق قائم کرنا مشکل لگتا ہے۔
- صاف بات چیت: آپ اپنے خیالات کو واضح اور مختصر انداز میں بیان کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔
- تنازعہ کا حل: آپ اختلافات کے دوران تنازعہ سے بچتے ہیں یا دفاعی ہو جاتے ہیں۔
- ٹیم ورک: آپ کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور آپ خود مختار کام کرنا پسند کرتے ہیں۔
- جذباتی ذہانت: آپ اپنے جذبات کو سنبھالنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔

SMART اہداف کا تعین

جب آپ اپنی طاقتوں اور ترقی کے شعبوں کی نشاندہی کر لیں، تو اگلا قدم SMART اہداف مقرر کرنا ہے تاکہ آپ کی بہتری کی کوششوں کی رہنمائی کی جاسکے۔ SMART اہداف یہ ہیں:

- مخصوص: واضح طور پر بتائیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
- قابل پیمائش: اپنی پیش رفت کی پیمائش کے لیے معیار مقرر کریں۔
- قابل حصول: حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں جو آپ حقیقت پسندانہ طور پر حاصل کر سکیں۔
- متعلقہ: یقینی بنائیں کہ آپ کے مقاصد آپ کے مجموعی ذاتی اور پیشہ ورانہ مقاصد کے مطابق ہوں۔
- وقت کی پابندی: اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کریں۔

SMART اہداف کی مثالیں:

- ترقی کا شعبہ: فعال سننا
 - سمارٹ گول: "الگلے مہینے میں، میں گفتگو کے دوران دوسروں کی بات چیت میں آنکھیں ڈال کر، سر ہلا کر اور ان کے نکات کا خلاصہ کر کے فعال طور پر سنوں گا۔ میں اپنی پیش رفت کو اس طرح ٹریک کروں گا کہ میں روزانہ جرنل میں کتنی بار فعال طور پر سنتا ہوں اور مہینے کے آخر تک روزانہ کم از کم 5 بار سننے کا ہدف رکھتا ہوں۔"
- ترقی کا شعبہ: تنازعات کا حل
 - سمارٹ ہدف: "الگلے دو مہینوں میں، میں اپنی تنازعہ حل کرنے کی مہارتوں کو مضبوط مواصلاتی تکنیکوں کی مشق کر کے بہتر بناؤں گا۔ میں تنازعات کے حل پر ایک ورکشاپ میں شرکت کروں گا اور کم از کم دو حقیقی زندگی کے تنازعات کی صورتحال میں سیکھی گئی تکنیکوں کو لاگو کروں گا، نتائج اور سیکھے گئے اسباق کو دستاویزی شکل دوں گا۔"
- ترقی کا شعبہ: جذباتی ذہانت
 - سمارٹ ہدف: "الگلے تین مہینوں میں، میں اپنی جذباتی ذہانت کو خود آگاہی اور ہمدردی کی مشق کر کے بڑھاؤں گا۔ میں روزانہ 15 منٹ اپنے جذبات کے بارے میں جرنلنگ اور اس بات پر غور کرنے کے لیے وقف کروں گا کہ میرے اعمال دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں فعال طور پر بھی کروں گا
- ترقی کا شعبہ: مختلف حالات میں میرے جذباتی رد عمل پر قابل اعتماد ساتھیوں یا دوستوں سے رائے حاصل کریں۔"
- ترقی کا شعبہ: ٹیم ورک
 - سمارٹ ہدف: "الگلے پروجیکٹ میں جس کے لیے مجھے تفویض کیا جائے گا، میں ٹیم کی مباحثوں میں فعال طور پر حصہ لوں گا، تعمیری رائے دوں گا اور اپنی ٹیم کے ارکان کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ میں اپنی کامیابی کو اس طرح ناپوں گا کہ میں کتنی بار ٹیم مباحثوں میں حصہ لیتا ہوں اور اپنی ٹیم کے ارکان سے اپنی شکریوں پر فیڈبیک لیتا ہوں۔"

مسلسل پریکٹس اور فیڈبیک کے لیے پرعزم رہیں

بین شخصی مہارتوں کو بہتر بنانا ایک جاری عمل ہے جس کے لیے مستقل مشق اور فیڈبیک درکار ہوتا ہے۔

عادت:

- مواقع تلاش کریں: مختلف ماحول میں اپنی بین شخصی مہارتوں کی مشق کے لیے فعال مواقع تلاش کریں۔ اس میں گروپ پروجیکٹس کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دینا، مباحثوں میں حصہ لینا، یا صرف دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا شامل ہو سکتا ہے۔
- رول پلےنگ: دوست یا ساتھی کے ساتھ مخصوص مناظر کی مشق کریں تاکہ حقیقی زندگی کے تعاملات کی نقل کی جاسکے۔ یہ آپ کو مشکل حالات کے لیے تیار ہونے اور اپنی بات چیت کی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
- دوسروں کا مشاہدہ کریں: اس بات پر توجہ دیں کہ دوسرے مؤثر طریقے سے کیسے تعامل کرتے ہیں اور ان کی تکنیکوں سے سیکھیں۔ ان کی جسمانی زبان، آواز کے لہجے اور بات چیت کے انداز کا مشاہدہ کریں۔

رائے:

- رائے حاصل کریں: قابل اعتماد ساتھیوں، دوستوں، یا رہنماؤں سے فعال طور پر رائے حاصل کریں۔ ان سے اپنی طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کی مخصوص مثالیں مانگیں۔
- تنقید کے لیے کھلے رہیں: تعمیری تنقید کے لیے کھلے رہیں اور اسے ترقی کے موقع کے طور پر دیکھیں۔ دفاعی رویہ اختیار کرنے سے گریز کریں اور اس کے بجائے فیڈبیک کو سمجھنے اور اس سے بہتر ہونے کے طریقے پر توجہ دیں۔
- تعاملات پر غور کریں: ہر تعامل کے بعد وقت نکالیں کہ کیا اچھا ہوا اور کیا مختلف کیا جاسکتا تھا۔ اپنے الفاظ اور اعمال کے دوسروں پر اثرات پر غور کریں۔

مسلسل مشق اور فیڈبیک کے عزم کے ذریعے، آپ اپنی بین شخصی مہارتوں کو مسلسل بہتر بنا سکتے ہیں اور مضبوط اور مؤثر تعلقات بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بہتری کے لیے وقت اور محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے اپنے ساتھ صبر کریں اور راستے میں اپنی پیش رفت کا جشن منائیں۔

ٹرینر نوٹس

- رول پلے (مہمانوں کی شکایت، ٹیم ورک چیلنج) استعمال کریں۔
- حقیقی کام کی جگہ کے مسائل پر گروپ مباحثوں کی حوصلہ افزائی کریں۔
- سیولیشنز کے بعد فیڈبک دیں۔

تشخیصی معیار

- علم: مواصلات، ٹیم ورک، اور EI تصورات کی وضاحت کرتا ہے۔
- مہارتیں: فعال سننے، پر اعتماد ہونے، تنازعہ حل کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔
- رویہ: مہمانوں/ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی، احترام اور تعاون ظاہر کرتا ہے۔

ماڈیول 3: کھانے اور مشروبات کی سروس کے لیے سروس اور مہمانوں کے علاقوں کی تیاری اور صفائی

ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

- مہمانوں کو پیشہ ورانہ انداز میں خوش آمدید کہیں اور سروس کے معیار کو برقرار رکھیں۔
- کھانے اور مشروبات پیش کرنے کے لیے درست طریقے، اوزار اور آلات استعمال کریں۔
- ٹیک اوے/کاؤنٹر سروس کو مؤثر طریقے سے منظم کریں۔
- ادا بیگیوں کو محفوظ اور پیشہ ورانہ طریقے سے سنبھالیں۔
- سروس ڈیلیوری میں آؤٹ لیٹ کے کیپٹن اور سپروائزرز کی مدد کریں۔
- خوراک کو ذخیرہ کرنے، رکھنے اور پیش کرنے کے دوران خوراک کی حفاظت کو برقرار رکھیں۔
- سروس ایریاز کو آپریشنز سے پہلے اور بعد میں تیار، صاف اور ری سیٹ کریں۔

خوراک اور مشروبات کی سروس کے لیے سروس اور مہمان علاقوں کی تیاری، صاف

1. تعارف

ایک کامیاب خوراک اور مشروبات (F&B) سروس مہمانوں کے آنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کے علاقے، ساز و سامان اور عملے کی تیاری کو **mise en place** کہا جاتا ہے، جو ایک فرانسیسی فقرہ ہے جس کا مطلب ہے "ہر چیز اپنی جگہ پر۔"

Mise en Place اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام اوزار، مواد، اور سروس آئٹمز تیار، صاف اور عملے کی آسانی سے پہنچ میں ہوں۔ یہ تیاری ایک پیشہ ور بناتی ہے

ماحول، غلطیوں کو کم کرتا ہے، اور مہمانوں کو ایک ہموار کھانے کے تجربے سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے۔

میٹرڈی اس تیاری کی نگرانی کا ذمہ دار ہے، لیکن ہر ٹیم ممبر کو اپنے تفویض کردہ فرائض کو سمجھنا اور مؤثر طریقے سے انجام دینا ہوگا۔

2. کھانا و شراب کی خدمت (میز این پلین) کے لیے تیاری


اہم تیاری کے فرائض:

- ریزرویشنز چیک کریں
 - بلنگ شیٹس کا جائزہ لیں تاکہ مہمانوں کی تعداد، خاص غذائی ضروریات یا وی آئی پیز کی تعداد معلوم ہو سکے۔
 - مناسب طریقے سے نشستوں کے منصوبے تیار کریں۔
- نشستوں کے منصوبے اور اسٹیشنز
 - ہر ویئر کے لیے میزوں (اسٹیشنز) کے حصے مختص کریں۔
 - عملے کے درمیان کام کے بوجھ کا توازن یقینی بنائیں۔
- ریستوران کی صفائی
 - ویکيوم قائلین۔
 - میزیں، کرسیاں، اور سائیڈ اسٹیشنز کو دھول اور پالش کرتے ہیں۔
 - مجموعی صفائی، روشنی، اور ہوا کے معیار کو یقینی بنائیں۔
- میز اور کرسی کی تیاری
 - میزیں اور کرسیاں نشستوں کے نقشے کے مطابق رکھیں۔
 - آرام اور حرکت کے لیے توازن اور فاصلہ برقرار رکھیں۔
- لیبن کی تیاری
 - ٹیبل لیبن جمع کریں اور تہہ کریں۔
 - یقینی بنائیں کہ کوئی جھریاں، داغ یا پھاڑ نہ آئیں۔
- سروس آئٹمز کی پالش
 - برتن، پیچ اور شیشے کے برتن بالکل صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔
 - چمک اور صفائی کے لیے بغیر لنٹ والے کپڑوں سے پالش کریں۔

- سائیڈ اسٹیشن کی تیاری
 - اضافی پیچھے، پلیٹیں، شیشے کے برتن، نیپکنز کے ساتھ اسٹاک سائیڈ بورڈز۔
 - یقینی بنائیں کہ روٹی، مکھن، کافی کے برتن اور پانی کے جگ دستیاب ہوں۔
- مصالحو جات اور اضافی اشیاء
 - تنک اور کالی مرچ کے کروٹس دوبارہ بھریں۔
 - مکھن کے حصے، ساسز، یا ساتھ کے اجزاء تیار کریں۔


3. ٹیبل سیٹنگ

ہر ریستوران کے مخصوص ٹیبل لگانے کے معیار ہوتے ہیں۔ یہ دوپہر اور رات کی خدمت کے درمیان مختلف ہو سکتے ہیں، یا آرام دہ اور عمدہ کھانے کے درمیان۔ یہ سرور کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شفٹ کے لیے درست سیٹنگ جانے۔



ٹیبل سیٹنگ کے بنیادی اصول:

- کنٹری کو استعمال کے ترتیب میں رکھیں (باہر-اندہ)۔
- کانٹے بائیں طرف، چاقو اور چمچ دائیں طرف۔
- چاقوؤں کے اوپر شیشے کے برتن، سیدھے اور بے داغ۔
- نیپکنز کو تہہ کر کے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے (پلیٹ پر یا بائیں طرف)۔
- اگر ضرورت ہو تو مکھن کے چاقو کے ساتھ روٹی اور مکھن کی پلیٹیں۔




فائن ڈائننگ سیٹ اپ (مثال):

- اسٹیشن سروس: ہر سرور کے پاس ایک سائڈ ٹیبل/کارٹ ہوتا ہے جس میں درج ذیل چیزیں موجود ہوتی ہیں:
 - تازہ چادریں
 - چاندی کے برتن اور چین
 - شیشے کے برتن
 - بریڈ لینڈ بٹر پلیٹیں
 - گرم کافی تھرموس اور پانی کا جگ
- سروس رول: مہمانوں کو کبھی بھی گمشدہ اشیاء کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھنے سے پہلے سب کچھ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔

کم سے کم سیٹ اپ:

- کچھ ریسٹوران سادہ میز کا انتخاب کرتے ہیں
- سیننگلز (مثلاً، صرف پہلے کورس کے لیے کنٹری رکھی جاتی ہے)۔
- یہ طریقہ پالش کرنے کے کام کو کم کرتا ہے اور کنٹری کو ہر کورس میں بچھانے کی اجازت دیتا ہے۔

کالج کے ریسٹوران میں معیاری ترتیب میز ڈی ہوٹ کور ہے۔ اس میں درج ذیل اشیاء شامل ہیں:



- جوائنٹ فورک
- جوائنٹ ٹائف
- سوپ سپون
- اسٹارٹر فورک
- اسٹارٹر ٹائف
- ڈیزرٹ سپون
- ڈیزرٹ فورک
- سائیڈ پلیٹ
- سائیڈ ٹائف
- پانی کا گلاس

ہر ریسٹورانٹ کے پاس ایک خاکہ ہوتا ہے کہ ہر کور کو کیسے سیٹ کیا جائے۔ کور وہ جگہ ہے، جو تقریباً ایک پلیس میٹ کے سائز کی ہے، جس پر ہر مہمان کے لیے میز کی سجاوٹ رکھی جائے گی۔ کچھ ادارے درحقیقت پلیٹ کے بائیں جانب کھانے کے ڈمز ٹائف سے فاصلے اور پلیٹ کے دائیں طرف چمچ کے فاصلے کو ناپنے کے لیے رولر استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ نے چند درجن جگہوں کی سیننگل سیٹ کر لیں تو آپ ایک نظر میں بتا سکیں گے کہ آپ کی میز صحیح طریقے سے رکھی گئی ہے یا نہیں۔

خوراک اور مشروبات کے آپریشنز میں میل سروس کے طریقہ کار

1. ناشتہ کی سروس

بیان:

ناشتہ کی سروس تیز، خوشگوار اور مؤثر ہونی چاہیے۔ بہت سے مہمان صبح سویرے اچھے موڈ میں نہیں ہوتے، اس لیے فوری سروس اور مثبت رویہ نمایاں فرق ڈال سکتا ہے۔ وقت کا تعین بہت اہم ہے کیونکہ تمام ناشتے کی اشیاء درست درجہ حرارت پر پیش کی جانی چاہئیں، اور گرم کھانے کچن سے بروقت پہنچنا چاہیے۔

ہدایات:

- پیلے تازہ پھل یا پھلوں کا رس پیش کریں۔ اگلا کورس لانے سے پہلے استعمال شدہ گلاس/برتن ہٹا دیں۔
- اس کے بعد، میریل یا دیگر ہلکی اشیاء پیش کریں۔ گرم مواد لانے سے پہلے نکال دیں۔

- ایک کورس مکمل ہونے کا انتظار نہ کریں تاکہ گرم انٹری تیار کریں—یہ وقت پر پہنچ جانا چاہیے۔
- کافی/چائے/تھچوں کے دائیں طرف رکھی جاتی ہے اور ضرورت کے مطابق دوبارہ بھر دی جاتی ہے۔
- فنکر باؤلز:
 - پھلوں کے کھانے کے بعد اگر داغ لگنے کا امکان ہو۔
 - ورنہ، کھانے کے آخر میں پیش کریں۔
- چیک کو چہرہ نیچے، کور کے دائیں طرف یا صاف ٹرے پر پیش کریں۔

2. لُچ سروس

بیان:

دوپہر کے کھانے کے مہمان عام طور پر دو اقسام میں آتے ہیں:

1. برنس ڈائٹرز۔ وقت کم ہوتا ہے، تیز اور مؤثر سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔
 2. تفریحی کھانے والے۔ خریدار، مسافر، یا گروپ جو زیادہ آرام دہ رفتار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
- وہٹ اسٹاف کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ پہلے گروپ کو جلدی سے خدمت فراہم کرے بغیر جلدی کیے دوسرا گروپ۔

ہدایات:

- مشروبات: پہلے آئس وائر (یا کوئی اور مشروب) پیش کیا جائے۔
- ٹھنڈی روٹی کی پلیٹ پر ٹھنڈا مکھن رکھیں۔
- کھانا کور کے درمیان میں رکھا جاتا ہے اور ختم ہونے پر صاف کر دیا جاتا ہے۔
- سلاد: کانٹے کے بائیں طرف، میز کے کنارے سے تقریباً دو انچ دور۔
- روٹی/رولز: سلاد پلیٹ کے بائیں جانب رکھی جاتی ہیں۔
- گرم مشروبات: کپ اور سوسر دائیں طرف، کپ کے اوپر کریم رکھیں۔
- اگر بیٹھا آرڈر کیا جائے:
 - سب سے پہلے میز کو نکلوے نکلوے کریں (کپڑے سے نکلوے نکالیں)۔
 - ڈیزرت سلور کو دائیں طرف رکھیں، ڈیزرت پلیٹ درمیان میں۔
 - گرم مشروبات کی درخواست کے مطابق پیش کریں۔
- میٹھے کے پلیٹیں ختم ہونے پر صاف کریں۔
- اگر مناسب ہو تو فنکر باؤل پیش کریں۔
- آخر میں چیک کو الٹا نیچے پیش کریں۔

3. ڈنر سروس (رات کے کھانے کی خدمت)

بیان:

رات کا کھانا عام طور پر ایک آرام دہ کھانے کا تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ مہمان توقع کرتے ہیں کہ وہ آرام کریں گے، مختلف کورسز سے لطف اندوز ہوں گے، اور ماحول کا لطف اٹھائیں گے۔ اگرچہ سروس جلد بازی محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن کورسز کے درمیان طویل تاخیر سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس سے مہمانوں کو مایوسی ہوتی ہے۔ سرور کو توجہ دینے والا ہونا چاہیے لیکن مداخلت کرنے والا نہیں۔

ہدایات:

- ایپیٹائزر: بائیں طرف سے پیش کیا گیا، کور کے مرکز میں رکھا گیا۔
 - اگر آپ خود سروس کر رہے ہیں تو پیلے خالی پلیٹ رکھیں۔
 - کھانے کے بعد برتن ہٹا دیں۔
- سوپ یا سلاد: اگلا پیش کریں، کور کے مرکز میں۔
- اگلے کورس شروع ہونے سے پہلے تمام اشیاء کو صاف کر لیں۔
- انٹری:
 - اگر پلیٹ میں پیش کیا جائے تو اسے کور کے اوپر رکھیں اور دائیں طرف سرونگ سلور لگا دیں۔
 - اگر اسے چڑھایا گیا ہو (روسی سروس اسٹائل)، تو اسے براہ راست کور پر لگائیں۔
 - ایک گرم کھانے کی پلیٹ ہمیشہ فراہم کی جانی چاہیے۔
- سلاد:
 - اگر اینٹری کے ساتھ پیش کیا جائے تو → کانٹے کے بائیں طرف رکھا جائے۔
 - اگر الگ سے پیش کیا جائے → تو سلاد فورک کو کور کے بائیں طرف رکھیں، سلاد درمیان میں رکھیں، پھر سروس کے بعد صاف کریں۔

- مشروبات: چچوں کے دائیں طرف رکھے جاتے ہیں۔
- رولز: سلاد پلیٹ کے بائیں جانب رکھے جاتے ہیں۔
- مین کورس کے بعد: میز کو ٹکڑے ٹکڑے کریں۔
- میٹھا: سلور کو دائیں طرف رکھیں اور ڈیزرٹ سروس کور کے وسط میں رکھیں۔
- گرم مشروبات: کور کے دائیں جانب پیش کیے جاتے ہیں۔

ٹریئر نوٹس

- ہر کھانے کے پیڑ کے لیے ماک سروس ڈرلز استعمال کریں۔
- ناشتے کی سروس کے دوران طلباء کو رفتار پر زور دینے کے لیے وقت مقرر کریں۔
- دوپہر اور رات کی رات کی ترتیب کے دوران کریمنگ ٹیکنیک کا مشاہدہ کریں۔
- جسمانی زبان کی ترتیب کریں: ناشتہ میں خوش مزاج، دوپہر کے کھانے میں ڈیٹا، رات کے کھانے میں خوبصورت۔

تشخیصی معیار

- علم: ناشتہ، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کی سروس کے لیے درست ترتیب کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: کنٹری، مشروبات اور کورسز کی مناسب جگہ دکھاتا ہے۔
- رویہ: سروس اسٹائل کو ایڈجسٹ کرتا ہے (ناشتہ میں تیز/ڈیٹا، دوپہر کے کھانے میں پکدار، رات کے کھانے میں پرسکون/بادقار)۔

4. کلیئرنگ کے طریقہ کار

تیاری جتنا ہی اہم ہے، مہمانوں کے کھانے کے بعد سروس ایریا کو صاف کرنا بھی اہم ہے۔

صفائی کے اقدامات:

1. انتظار کریں جب تک میز پر موجود تمام مہمان اپنا کورس مکمل نہ کر لیں۔

2. خاموشی سے اور دائیں طرف سے پلیٹس کے لیے قریب آئیں۔
3. پلیٹیں براہ راست میز پر نہ رکھیں۔ ٹرے یا بازو استعمال کریں۔
4. کٹلری اور گلاس کو ان کے ڈنٹھل یا بینڈل سے سنبھالیں—کنارے یا پیالوں سے نہیں۔
5. اگلی سروس کے لیے میز کو فوراً صاف اور ری سیٹ کریں۔

صفائی کے سفیری اصول:

- کبھی مہمانوں کے درمیان ہاتھ نہ بڑھائیں۔
- ہمیشہ احتیاط اور پیشہ ورانہ انداز میں ہٹا دیں۔
- ٹیبلز کو فوراً اصل معیار پر ری سیٹ کریں۔

5. ٹریمر نوٹس

- ٹیبل سیٹ کرنے کی مشقیں کریں جہاں سیکھنے والے وقت کی حد میں میزیں ترتیب دیں۔
- صاف ستھری پیشکش کو اجاگر کرنے کے لیے مقابلوں کو پالش کرنے کی مشق کریں۔
- ریسٹوران کی شفٹوں کی نقل کریں جہاں طلباء میزیں کئی راؤنڈز کے لیے تیار اور ری سیٹ کرتے ہیں۔

6. تشخیصی معیار

- علم: سیکھنے والا میزے این پلیس کے فرائض اور میز لگانے کے معیار کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: درست سیٹ اپ، پالش اور صفائی کی تکنیکیں دکھاتا ہے۔
- رویہ: تیاری اور صفائی کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، تفصیل پر توجہ، اور رفتار ظاہر کرتا ہے۔

لرننگ یونٹس (LUs)

لرننگ یونٹ 3.1: مہمانوں کا استقبال کریں اور آرڈرز لیں

بیان:

کسی ریسٹوران کا پہلا تاثر اکثر مہمانوں کے استقبال سے آتا ہے۔ گرمجوش سلام، پیشہ ورانہ انداز، اور توجہ سے سننے نے کا ماحول قائم کیا۔ آرڈر لینا درست، مہذب اور مؤثر ہونا چاہیے۔ مہمانوں کو کبھی بھی جلد بازی محسوس نہیں کرنی چاہیے، لیکن سروس کو بروقت رینا چاہیے۔

شقیں:

- مسکرا کر کھڑے ہوں، شائستگی سے سلام کریں ("شب بخیر، خوش آمدید...")۔
- مہمانوں کو ان کی میز تک لے جائیں۔
- بیو فراہم کریں اور خاص پیشکشیں متعارف کروائیں۔
- آرڈرز کو واضح طور پر لیں، تفصیلات کی تصدیق کریں، غذائی پابندیوں کو نوٹ کریں۔

لرننگ پونٹ 3.2: ٹھنڈے مشروبات مناسب طریقوں / آلات کے ساتھ پیش کریں

بیان:

مشروبات پیش کرنے کے لیے درستگی، صفائی اور درست آلات درکار ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات (جو سز، موکٹیلز، سافٹ ڈرنکس) کو خوبصورت، درست درجہ حرارت پر، اور مناسب شیشے کے برتن میں پیش کیا جانا چاہیے۔

شقیں:

- صاف، چمکدار شیشے کے برتن استعمال کریں۔
- ٹرے یا کوسٹر کے ساتھ سرو کریں۔
- بوتلوں / گلاسز کو صفائی ستھرائی کے ساتھ سنبھالیں (کچی رم کو ہاتھ نہ لگائیں)۔
- درست گارنشر (لیموں کا ٹکڑا، لیموں کا سلاٹس، اسٹرا، پودینہ) کو یقینی بنائیں۔

لرننگ پونٹ 3.3: آؤٹ لیٹ کاؤنٹر اور نیک اوے سروس فراہم کرنا

بیان:

ہست سے آؤٹ لیٹس میں، مہمان کاؤنٹر سے آرڈر کر سکتے ہیں یا نیک اوے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت اور رفتار یہاں اہم ہے، کیونکہ سروس عموماً تیز اور لین دین پر مبنی ہوتی ہے۔

شقیں:

- کاؤنٹر کو صاف اور منظم رکھیں۔
- نیک اوے کی اشیاء کو محفوظ طریقے سے پیک کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی چیز نہ گرے۔
- ہینڈ اور سے پہلے آرڈر کو دوبارہ چیک کریں۔
- مہمانوں کو کلکیشن میں شائستگی سے خوش آمدید کہیں۔

لرننگ پونٹ 3.4: مہمانوں سے محفوظ ادائیگی

بیان:

ادائیگی سروس کا آخری مرحلہ ہے اور اسے درستگی اور احتیاط کے ساتھ سنبھالنا ضروری ہے۔ عملے کو چاہیے کہ وہ نقد رقم، کارڈ یا ڈیجیٹل سسٹمز کو پیشہ ورانہ طور پر استعمال کرنا جانتا ہو۔

شقیں:

- بل کو فوری اور خاموشی سے پیش کریں۔
- مہمان کی پسندیدہ ادائیگی کے طریقہ کار کی تصدیق کریں۔
- نقد رقم / کارڈ کو محفوظ اور شائستگی سے سنبھالیں۔
- شکریہ کے ساتھ بیلنس یا رسید واپس کریں۔

ہرنگ پونٹ 3.5: آؤٹ لیٹ کے کپتان کی حمایت کریں

بیان:

ریستورانوں میں، کپتان سیکشنز کی نگرانی کرتا ہے۔ ویٹرز اور اسٹیورڈز ہدایات پر عمل کر کے، معیارات برقرار رکھ کر، اور مسائل کی رپورٹنگ کر کے مدد کرتے ہیں۔

نکات:

- کپتان کی ہدایات پر عمل کرو۔
- مہمانوں کی درخواستوں کی فوری اطلاع دیں۔
- میز آن پلیس کی نگرانی میں مدد کریں۔
- مہمانوں کی شکایات کے حل میں مدد۔

مینیو نالج اور کسٹمر کی معلومات

1. تعارف

کھانے اور مشروبات کی خدمت میں، مینیو صرف کھانوں کی فہرست نہیں بلکہ ایک مواصلاتی اور فروخت کا ذریعہ ہے۔ ویٹرز اسٹاف، بار اسٹاف اور مینیجرز کے لیے کھانے اور مشروبات کا گہرا علم ضروری ہے۔ اچھا مینیو علم عملے کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ:

- نذرانے کو واضح اور پراعتماد انداز میں بیان کریں۔
- گاہکوں کو مناسب انتخاب کے بارے میں مشورہ دیں۔
- غذائی درخواستوں اور خصوصی ضروریات کا انتظام کریں۔
- سفارشات کے ذریعے کھانے کے تجربے کو بہتر بنائیں۔
- کسٹمر کا اعتماد اور وفاداری پیدا کریں۔

اپنے ادارے کے مینیو کی منفرد خصوصیات کو مقابلے میں جاننا ایک طاقتور مارکیٹنگ ٹول ہے۔

2. مینیو نالج کی بنیادی باتیں (مینیو کی بنیادی معلومات)

ہر سروس پروفیشنل کو درج ذیل کا مکمل علم ہونا چاہیے:

- مینیو آئٹمز۔ پکوان، مشروبات، اور ان کی تیاری کے انداز۔
- پکانے کے طریقے۔ گرلنگ، بھاپ میں پکانا، بیکنگ، فرائی وغیرہ۔
- اجزاء اور سورسنگ۔ پیداوار کی اصل (مقامی/نامیاتی، جنگلی/فارمڈ)۔
- گارنشر۔ مثلاً، کیفے ڈی پیرس مکھن اسٹیک کے ساتھ۔
- حصے کے سائز۔ مثلاً، فلیٹ اسٹیک جو 200 گرام میں پیش کیا جاتا ہے۔
- ساتھ دینے والی اشیاء۔ نشاستہ، سبزیاں، ساسز۔
- سروس کا سلسلہ۔ کھانے پیش کرنے کا ترتیب۔
- تیاری اور وقت بندی۔ سونے میں 20 منٹ لگتے ہیں؛ کافی فوراً پیش کی جاتی ہے۔

- قیمتیں اور خصوصی پیشکشیں - روزانہ کی پیشکشیں، موسمی جھلکیاں، واٹن پروموشنز۔
- 6 نتیجہ: اس علم کے ساتھ، عملہ سوالات کے جواب دے سکتا ہے، مہمانوں کے ساتھ اعتماد پیدا کر سکتا ہے، اور درست سفارشات کے ذریعے سیلز کو فروغ دے سکتا ہے۔

3. مینو آئٹمز پر مشورہ دینا منظر نامے اور حل:

- غذائی ضروریات:
 - ایک سیلیک مہمان گلوٹن فری آپشن مانگتا ہے → کرمبڈ کی بجائے گرلڈ چکن تجویز کریں، یا قدرتی گلوٹن فری کھانوں کو نمایاں کریں۔
 - صحت کی ترجیحات:
 - ایک مہمان کم چکنائی کی درخواست کرتا ہے → فرائیڈ فیش کی بجائے پوچڈ سالمن کی سفارش کرتا ہوں۔
 - اجزاء کی اصل:
 - ایک گاہک مچھلی کے ماخذ کے بارے میں پوچھتا ہے → معلومات فراہم کرتا ہے (مثلاً "جنگلی پکڑی گئی اٹلانٹک کاڈ")۔
 - میٹھے کے اختیارات:
 - اگر میٹھا پسند نہ آئے تو مہمان دو انٹریز منتخب کر سکتا ہے → میٹھے کے مینو کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تیار رہیں۔
 - شراب کی جوڑی:
 - ایک میزبان شراب کے مشورے کی درخواست کرتا ہے → بوٹل کی تجویز دیں، مثلاً ریڈ بیف کے ساتھ سفید مچھلی کے ساتھ، میٹھے کے ساتھ میٹھا واٹن۔

مشورہ دینے میں بہترین طریقے:

- ہمیشہ خاص اشیاء کو جوش و خروش سے سمجھائیں۔
- دستیاب نہ ہونے والے کھانوں کے لیے متبادل پیش کریں۔
- مہمانوں کی ترجیحات کے بارے میں سوالات پوچھیں تاکہ انتخاب کی رہنمائی ہو سکے۔
- اضافی اشیاء کو فروغ دیں (مثلاً، "ہمارا گھر کا بنایا ہوا چیز کیک کافی کے ساتھ بہترین ہے")۔
- سائیڈ ڈشز یا ساتھ والے کھانے تجویز کریں۔

4. کسٹمر انٹریکشن اور سروس ماٹریڈ سیٹ

مضبوط کسٹمر فوکس کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

- گاہکوں کی خدمت کریں، جذبہ دکھائیں۔
- اپنے ادارے کی پیشہ ورانہ اور مثبت تصویر برقرار رکھیں۔
- مینو کی معلومات کے ساتھ فعال رہیں (وہسکیز، اسپیشلز، آنے والے ایونٹس)۔
- اچھی معلومات کے ساتھ سروس کی رفتار اور کارکردگی کی حملت کریں۔
- سمجھیں کہ صارفین صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ تجربے کے لیے ادا بیگی کرتے ہیں۔
- ٹوراک، ثقافتی، اور ذاتی ضروریات کے لیے حساس رہیں۔

﴿سنہری اصول: وہ گاہک جو خود کو سمجھے، معزز اور رہنمائی شدہ محسوس کرتے ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں۔﴾

5. کھانے پکانے کے اصطلاحات پر مشورہ دینا

مہمان اکثر کھانا پکانے کے انداز اور پکنے کی سطح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عملہ کھانے پکانے کی اصطلاحات کے بارے

میں مشورہ دینے کی وضاحت کرے گا

کھانے اور مشروبات کی خدمات میں، مہمان اکثر کھانا پکانے کے طریقوں، مینو کی اصطلاحات، اور پکانے کی سطح کے بارے میں رہنمائی کے لیے عملے سے رجوع کرتے ہیں۔ ان اصطلاحات کو اعتماد کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت نہ صرف مہمانوں کی اطمینان کو بڑھاتی ہے بلکہ ادارے میں اعتماد بھی پیدا کرتی ہے۔ ماہر ویٹر عملہ مینو کے سفیر بن جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مہمان بہترین کھانے کے انتخاب میں مدد محسوس کریں۔

کھانا پکانے کے طریقے

کھانے کی تیاری کو مختلف طریقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر طریقہ ڈش میں منفرد ساخت، خوشبو اور ذائقے شامل کرتا ہے۔

1. نم حرارت کے طریقے

یہ کھانا پکانے کے لیے مائع یا بھاپ استعمال کرتے ہیں، جس سے اکثر نرم ساخت پیدا ہوتی ہے۔

- ابالنا۔ پانی یا تخی میں زیادہ حرارت پر پکانا، مثلاً اہلی ہوئی سبزیاں، پاستا۔
- پوچنگ۔ ابالنے کے نقطہ سے ذرا نیچے مائع میں نرمی سے پکانا، انڈے، مچھلی، اور مرغیوں کے لیے مثالی۔
- بھاپ میں پکانا۔ بھاپ سے پکانا تاکہ غذائی اجزاء اور نازک ذائقے برقرار رہیں، جو سمندری غذا اور سبزیوں میں عام ہے۔

مہمان نوازی کا مشورہ: صحت کے خیال رکھنے والے مہمانوں کے لیے بھاپ میں پکی ہوئی مچھلی تجویز کریں کیونکہ یہ غذائی اجزاء کو محفوظ رکھتی ہے اور ہلکی ساخت برقرار رکھتی ہے۔

2. خشک حرارت کے طریقے

یہ بغیر اضافی مائع کے گرم ہوا یا براہ راست حرارت پر انحصار کرتے ہیں۔

- روسٹنگ۔ اوون میں پکانا، گوشت اور جڑ والی سبزیوں کے لیے موزوں۔
- بیکنگ۔ عام طور پر روٹیوں، پیسٹریز اور میٹھے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- گرلنگ۔ نیچے سے براہ راست حرارت دینا، دھوئیں دار ذائقہ اور جلی ہوئی ساخت پیدا کرنا۔
- براؤنگ۔ اوپر سے گرمی، جو اکثر اسٹیکس اور گوہن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

3. امتزاج کے طریقے

ان میں ڈالنے کی گہرائی کے لیے نم اور خشک حرارت دونوں استعمال ہوتی ہیں۔

- پوٹ روسٹنگ - پہلے گوشت کو سیڑ کرنا، پھر مائع کے ساتھ آہستہ آہستہ پکانا۔
- این پیپیلوٹ - کھانے (مثلاً مچھلی) کو پارچمنٹ پیپر میں جزی بوٹیوں اور نمی کے ساتھ لپیٹنا، ڈائقہ کو لاک کرنا۔

4. تلنے کے طریقے

چکنائی یا تیل ڈالنے سے کرسپ پن اور سنہری رنگ ملتا ہے۔

- شالوفرائنگ - بین میں تھوڑا سا تیل ڈالنا۔
- سوٹے کرنا - کھانے کو تیز آج پر کم چکنائی میں جلدی ڈالنا۔
- اسٹ-فرائی - ایشیائی کھانوں میں عام طور پر تیز رفتار پکانا۔
- ڈب فرائنگ - کھانے کو گرم تیل میں ڈبونا تاکہ ککرکرا نتائج حاصل ہوں، مثلاً فرائز یا ٹیمپورا۔

5. خصوصی تکنیکیں

- فلاہے - شراب کو آگ لگانا تاکہ ڈرامائی پیشکش اور منفرد ڈائقہ پیدا ہو۔
- ٹیمپورا - جاپانی ڈب فرائی تکنیک جو ہلکے بیڑ کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے۔

مہمان نوازی کا مشورہ: وضاحت کرتے وقت، ہمیشہ صحت کے اختیارات کو اجاگر کریں (مثلاً، "یہ چکن ہلکے ورژن کے لیے فرائی کرنے کے بجائے گرل کیا جاسکتا ہے")۔

گوشت کے لیے پکنے کی ڈگری

مہمان مختلف اندرونی درجہ حرارت پر پکایا گیا گوشت آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت واضح طور پر غلط فہمیوں سے بچتی ہے اور اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔

- ریڑ بلیو: 45-50° سینٹی گریڈ - اندر سے سرخ/کچا، ٹھنڈا اور نرم ساخت۔
- میڈیم ریڑ: 50-55°C (Saignant) - گرم سرخ مرکز، بہت رسیلا۔

- درمیانی $60-65^{\circ}\text{C}$: (A Point) – مرکز گلابی، ساخت زیادہ مضبوط۔
- بہت اچھا پکایا گیا $70-75^{\circ}\text{C}$: (Bien Cuit) – مکمل پکایا ہوا، کوئی گلابی رنگ نہیں، گھٹنا ٹیکسچر۔

کھانا پکانے کے طریقے کیوں اہم ہیں

مہمان اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈش خاص طریقے سے کیوں تیار کی جاتی ہے۔ عملے کو طریقہ کار کو کھانے کے معیار سے جوڑنا چاہیے:

- بھاپ میں پکی ہوئی مچھلی: نازک ڈائنڈ اور غذائی اجزاء کو محفوظ رکھتی ہے۔
- سبزوں کو بھوننا: قدرتی مٹھاس کو بڑھاتا ہے۔
- گوشت کو گرل کرنا: دھواں دار، جلا ہوا ڈائنڈ شامل کرتا ہے۔
- پوٹ روسٹنگ: گوشت کو نرم اور ڈائنڈ دار رکھتا ہے۔

6. ٹرینر نوٹس

- سروس سے پہلے عملے کے ساتھ مینو کو ٹرینر کریں۔
- کسٹمرز کے ساتھ رول پلےنگ کے منظر نامے چلائیں جو مشکل سوالات پوچھتے ہیں۔
- عملے کو اپ سیننگ اور کراس سیننگ تکنیکوں کی تربیت دیں۔
- خصوصی پیشکش، دستیابی، اور تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ مینو ریفرنڈم استعمال کریں۔

7. تشخیصی معیار

- علم: مینو آئٹمز، پکانے کے طریقے، حصے کے سائز، اور قیمتیں شناخت کرتا ہے۔
- مہارت: کابکوں کو درست مشورہ دیتا ہے اور مناسب آپشنز تجویز کرتا ہے۔
- رویہ: اعتماد، پیشہ ورانہ مہارت، اور کسٹمر فوکس کو ظاہر کرتا ہے۔

تیاری

سروس کے لیے تیاری کے لیے سروس کے تمام حصوں کے لیے واضح رہنما اصول ضروری ہیں۔ چیک لسٹ بہترین ہیں تاکہ عملہ تمام ضروریات پوری کر چکا ہو۔ مندرجہ ذیل چیک لسٹ درکار کاموں کی ایک مثال ہے:

✓	اسٹورز سے طلب کردہ مشروبات کا اسٹاک - شراب، کیگز، بوتل بند بیگز، منز، کورڈ، سٹو، اسپرٹس، مکسر وغیرہ۔ (یہ اشیاء ایک رات پہلے منگوانا پڑ سکتی ہیں اور صبح اسٹور سے لے کر لے جانا پڑ سکتا ہے، یہ ادارے پر منحصر ہے طریقہ کار)
✓	دکانوں سے خوراک اور استعمال کی اشیاء طلب کریں - مکھن، چینی، دودھ، کریم، لیموں، لائٹ، سنترے، دیگر پھل، جزی بوٹیاں، کافی، فلٹرز، چائے، ایک بار استعمال ہونے والی اشیاء وغیرہ۔ (یہ اشیاء رات سے ایک رات پہلے طلب کی جا سکتی ہیں اور انہیں لے جانا پڑ سکتا ہے صبح کے وقت اسٹور کریں، ادارے کے طریقہ کار کے مطابق)
✓	سروس پوائنٹس کو نئے اسٹاک آئٹمز کے ساتھ دوبارہ اسٹاک کریں
✓	پولش ٹیبل کلنری اور ڈمی ویئر کو دوبارہ بھرنا
	برتن پالش کریں اور گرم کرنے والی پلیٹوں کے لیے گرم باکس کو دوبارہ بھر دیں
	تمام گلاس ویئر کو پالش کریں - شراب کے گلاس، پانی کے گلاس، کاک ٹیل گلاس
✓□	فل کروٹس (نک اور کالی مرچ کے شیکرز)
	مکھن کے حصے تیار کریں - ڈھیلا یا لپیٹے ہوئے
	گھر کی تیاری کے علاقے کو صاف، صاف ستھرا، صاف اور صاف کریں
	فریج اور ڈسپنس کیمینٹس کو چیک کریں، صاف کریں اور دوبارہ بھر دیں
✓	کافی مشین، ڈش واشر، گلاس واشر اور دیگر برقی آلات آن کریں
	پوسٹ مکس، ریپلیکیو لیشن سسٹم اور گیزز آن کریں

✓	گیس سلنڈر اور/یا کیگز تھیل کریں (اگر ضرورت ہو)
✓	ڈسپنس کیمینٹس میں شیلف چیک کریں، صاف کریں اور دوبارہ بھریں
	دوبارہ بھرنے والے لیمن - ٹیبل کلاتھ، سلپ کلاتھ، نیپکٹز، ڈومیلز
	میزیں اور کرسیاں بلنگ کی ضروریات اور میزوں کی تقسیم کے مطابق ترتیب دیں
	میزوں اور کرسیوں کی صفائی کا معائنہ کریں، پھر میزوں کو سٹلم کریں، صاف کریں اور سیٹ کریں۔ اگر ضرورت ہو تو سینٹین ویکیوم کلینر سے صاف کریں
	تاگی اور لٹش کے لیے پھولوں کی ترتیب چیک کریں؛ پانی بھرنے کے لیے
	تمام سخت، شیشے اور آئیے دار سطحوں اور اسکرینوں کو دھول، صاف اور/یا پالش کریں
	تمام قالین والے علاقوں کو ویکیوم کریں

	تمام ٹائلوں والے علاقوں کو جھاڑو اور جھاڑو لگائیں
	ٹوائلٹس کی صفائی چیک کریں اور سامان کو دوبارہ فراہم کریں
	فلوئس جمع کریں اور چیک کریں
	کچن کے ساتھ دستیاب اسپیشلز کی موجودہ فرسٹ اور دستیاب حصوں کی تعداد چیک کریں
	کچن کے ساتھ مینو آئٹمز کی دستیابی چیک کریں
	خصوصی تحریر لکھیں۔ یقینی بنائیں کہ یہ کام عمدہ خطاطی اور درست املا کے ساتھ کیا جائے
	مینیو کورز صاف کریں اور یقینی بنائیں کہ تمام مینیو صاف اور صحیح سلامت میں اور نہیں ہیں کوئی صفحہ غائب تھا۔ یہ بھی چیک کریں کہ مینیو اپ ڈیٹ ہیں، مثلاً وہ پہلے سے ہونے والے واقعات کی تشریح نہیں کر رہے
	کافی اسٹیشن کے کپ، سوسرز، پیچ، چینی، دودھ، کریمیں سیٹ کریں
	سروس اسٹیشنز قائم کرنا
	بار ورک سٹیشن اور کاؤنٹرز سیٹ اپ کریں
	سروس کنٹری لائنڈ پلیٹس پر لگائیں
	خصوصی پورڈ اور دیگر پروموشنل مواد مناسب جگہ پر لکھیں، مثلاً "وائٹ آف دی ٹیبل" میز پر کھڑا ہوتا ہے
	پری اوپننگ بریفنگ میں شرکت کریں
	لائسنس آن کریں اور بیک گراؤنڈ میوزک
	کمرے کا درجہ حرارت ایڈجسٹ کریں
	ریسٹوران، بار، اسٹل روم، پبلک ٹوائلٹس اور دیگر علاقوں کی آخری جانچ پہلے کریں کھولنے کے لیے، ہاؤس کیپنگ اور آپریشنل معیارات و طریقہ کار کے مطابق
	مناسب وقت پر دروازے کھولیں اور کھولیں

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیم کے درمیان مختلف قسم کے کام تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ تمام کاموں میں مؤثر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ناکمل یا لاپرواہ mise en place (سروس سے پہلے کی تنظیم) گاہکوں کے پہنچنے کے بعد عملے کے لیے شدید دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اگر سروس کے دوران mise en place کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہو تو یہ اضافی کام اور صارف پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر، گاہک کو ہموار سروس اور خوشگوار کھانے کا تجربہ چاہیے۔ ٹیم کو سروس سے پہلے تمام میزے آن پلیس مکمل کرنا ہوتا ہے

خوراک اور مشروبات پیش کریں - مینو کے مقصد اور اصول

1. تعارف

مینو کسی بھی ریستوران میں سب سے اہم دستاویز ہے۔ یہ صرف کھانوں کی فہرست نہیں بلکہ ریستوران کی شناخت، مارکیٹنگ کا ذریعہ اور گاہک کے لیے ایک وعدہ ہے۔

مینو اس ادارے کی ثقافت، تصور، اور کھانے پکانے کے فلسفے کو ظاہر کرتے ہیں۔ انداز، ترتیب، اور مواد درج ذیل سے متاثر ہوتے ہیں:

- ادارے کی قسم (عمدہ کھانا، کیفے، ہوٹل، فاسٹ فوڈ وغیرہ)
- ہدف کلائنٹس (کاروباری مسافر، خاندان، لگژری ڈائنرز وغیرہ)
- سروس پیویڈ (ناشتہ، دوپہر کا کھانا، چائے، رات کا کھانا، ناشتہ، فنکشنز)
- قیمتیں اور ویلیو آفرنگز

ایک اچھی طرح ڈیزائن کردہ مینو نہ صرف مہمانوں کو ان کے انتخاب میں رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ فروخت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور صارفین کا اعتماد پیدا کرتا ہے۔

2. میٹو کا مقصد

میٹو کے کئی مقاصد ہیں:

- یہ ریستوران اور مہمان کے درمیان ایک مواصلاتی آلہ کے طور پر کام کرتا ہے۔
- صارفین کو معلومات فراہم کرتا ہے (پکوان، اجزاء، ماخذ، قیمت، حصے کے سائز)۔
- یہ ادارے کے انداز، تھیم اور معیار کی عکاسی کرتا ہے۔
- یہ ریستوران اور گاہک کے درمیان ایک معاہدے کے طور پر کام کرتا ہے (جو اشیاء، قیمتوں، اور حصے کے سائز پر قانونی طور پر پابند ہے)۔
- یہ اپ سیلنگ کو ممکن بناتا ہے اور خریداری کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

3. میٹو کے اصول

میٹو کی معلومات

- ہر کورس میں کورسز اور اشیاء کی تعداد۔
- کھانوں کی تفصیلات۔
- غذائی معلومات (مثلاً گلوٹن فری، ویگن، حلال)۔
- اس ڈش کی ثقافتی اصل۔
- شیف کے کھانا پکانے کے طریقے اور پیشکش کا انداز۔

کسٹمر کی معلومات

- اجزاء کے ذرائع (مثلاً مقامی طور پر پکڑی گئی مچھلی، نامیاتی پیداوار)۔
- قیمتیں اور خصوصی آفرز (مثلاً، "2 کورسز \$30 میں")۔
- حصے کے سائز اور پیمائشیں (مثلاً سوپ کی مقدار، اسپرٹ کی پیمائش)۔

قانونی مضمرات

- مینو ایک معاہدہ ہیں۔ جو کچھ درج ہے اسے سرو کرنا ضروری ہے۔
- تبدیلیوں کی وضاحت فروخت سے پہلے کی جانی چاہیے (مثلاً، "سالمن فروخت ہو گیا، ٹراؤٹ سے بدل دیا گیا")۔
- وزن اور پیمائش درست ہونی چاہیے (300 گرام اسمیک کا وزن 300 گرام ہونا چاہیے)۔
- شراب کی سروس قانونی طور پر منظم ہے (عمر کی پابندیاں، معیاری سرونگ سائز)۔
- مینو سلیز ریکارڈز پر ٹیکس اور آڈٹنگ لاگو ہوتی ہے۔

4. مینو اسٹائلز پر اثر انداز ہونے والے عوامل

مینو مختلف ہوتے ہیں:

- ریستوران کا انداز اور موضوع۔
- ماہول، سجاوٹ اور سیٹنگ۔
- قیمتیں اور کسٹمر ویلیو۔
- عملے کی مہارتیں (تکنیکی مہارت، سروس اسٹائل، عملے اور مہمانوں کا تناسب)۔

عام انداز:

- روایتی: اسٹارٹرز، مین کھانے، بیٹھا۔
- خصوصی پروگرامز: موسمی یا مقامی پیداوار کو نمایاں کرنا۔
- بلیک بورڈ: پیکلر لیکن صاف ستھرا اور پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔
- معاصر: تخلیقی فارمیٹس (سارا دن ناشتہ، ٹاپاس، تھیم والے مینو)۔
- زبانی: ویٹر اسٹاف مینو کی وضاحت کرتا ہے (نایاب، مضبوط کمیونیکیشن اور اپ سیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے)۔

5. کلاسیکی مینو سیکوئنس

اگرچہ جدید کھانا زیادہ آرام دہ ہے، کلاسیکی مینو سیکوئنس اب بھی مینو کی منصوبہ بندی کی رہنمائی کرتا ہے:

1. لیسپٹائزر (مثلاً پیٹے، سموکڈ سالمون)
2. سوپ (مثلاً کدو کا سوپ، کونسومی)
3. ہاٹ اسٹائر (مثلاً کدو، ٹیمپورا جھنگلے)
4. انڈے یا فیئر بینڈسٹین پکوان (مثلاً ریزوٹو، گنولی)
5. مچھلی / سمندری غذا (مثلاً لابسٹر، جھنگلے)
6. گوشت / پولٹری کا انٹری (مثلاً بیف فلیٹ، چکن بریسٹ)
7. ریلیپوس (بریزڈ گوشت، ابلے ہوئے جوائنٹس)
8. روسٹ (مثلاً بھیڑ کا زین، ٹکی)
9. سبزیوں (مثلاً ڈچ بروکلی)
10. میٹھا (مثلاً لیموں مرنگ پائی)
11. پنیر (پنیر بورڈ)
12. پھل اور گری دار میوے (تازہ اور خشک)

6. مینو کی اقسام

جامد مینو


- شاذ و نادر ہی بدلتا ہوں، روزانہ وہی آئٹمز بدلتے ہیں۔
- فاسٹ فوڈ، چینز، اداروں میں استعمال ہوتا ہے۔
- مثال: میکڈونلڈز کا ہیمرگر مینو۔

خصوصی مینو

- محدود وقت کی پیشکشیں (موسمی اشیاء، "دن کی شکار")۔
- اکثر تھیم والے ہوتے ہیں (مثلاً باسٹیل ڈے، سی فوڈ ویک)۔

سائیکل مینو

- ایک مقررہ مدت (مثلاً 21 دن کا ہسپتال مینو) میں گھمائیں۔
- یہ بڑے پیمانے پر کیریئرنگ، لاگت کنٹرول اور تربیت کے لیے مفید ہے۔



7. سروس اسٹائل کے لحاظ سے مینو کی اقسام

آلا کارٹے ("کارڈ سے")

- مختلف اقسام، ہر ڈش کی قیمت الگ الگ تھی۔
- تازہ تیار شدہ آرڈر کے لیے۔
- مہمان کسی بھی تعداد میں کورسز کا انتخاب کرتے ہیں۔
- ("میزبان کی میز")
- مقررہ تعداد میں کورسز (3-5)۔
- ہر کورس میں محدود انتخاب۔
- مقررہ یا متغیر قیمت (مثلاً 2 کورسز \$30، 3 کورسز \$40)۔
- کچھ ڈشز پہلے سے تیار کی گئی ہیں۔

8. کھانے کے لیے مخصوص مینو

- ناشتہ کے مینو ٹینینٹس: پھل، اناج، ٹوسٹ، جام، مشروبات۔
 - مکمل / انگریزی: گرم اشیاء (انڈے، بیکن، ساسیز)۔
 - امریکی: وافلز، پین لیکس، بیش براؤنز۔
 - شیمپین ناشتہ: خاص مواقع کے لیے، شیمپین شامل ہے۔
- لچے مینو
 - 12 بجے سے 2 بجے دوپہر تک۔
 - سادہ، ہلکے پکوان۔
 - فوری سروس درکار ہے (خاص طور پر کاروباری کلاسٹس کے لیے)۔
- چائے کے مینو (صبح اور دوپہر)
 - صبح کی چائے (تقریباً 10 بجے): سینڈویچز، مفن، پیسٹریز، چائے / کافی۔
 - دوپہر کی چائے (2-5 بجے): شاندار سینڈویچز، پیسٹریز، مٹھائیاں، کانٹے کے ڈشز، شیمپین یا شری۔
- ڈنر مینو
 - زیادہ پیچیدہ اور مہنگا۔
 - تین کورس کی عام: لینٹری (ہلکا)، مین (مزیدار)، میٹھا (ہلکا اور میٹھا)۔
 - ڈانٹ چکھنے کے مینو: 4-12 چھوٹے کورسز، اکثر شراب کے جوزوں کے ساتھ۔
- سفیکس اور اسپیٹائزرز
 - چھوٹے چھوٹے اشیاء، ناپاس، کینا پے۔
 - غیر رسمی طور پر یا استقبالیہ کے دوران خدمات انجام دیتی تھیں۔
- فنکشن مینو
 - شادوں، سالگرہوں اور کانفرنسز کے لیے۔
 - اکثر ٹیبل ڈی ہوٹ یا بونے۔
 - آسانی سے عمل درآمد کے لیے احتیاط سے منصوبہ بندی ضروری ہے۔

9. مینو ڈیزائن کے اصول

مینو میں شامل ہونا چاہیے:

- ادارے کے موضوع اور شناخت کی عکاسی کریں۔
- پیشہ ورانہ ڈیزائن، مناسب فونٹس، اور معیاری کاغذ استعمال کریں۔
- پڑھنے میں آسان، گرامر کے لحاظ سے درست، اور غلطیوں سے پاک ہوں۔
- چکدار رہیں (اسپیٹلز یا موسمی اپ ڈیٹس میں تبدیلیوں کی اجازت دیں)۔
- کھانے کے انتخاب کو خوبصورت انداز میں واضح وضاحت کے ساتھ پیش کریں۔

ٹریزنر کے مشورے: مینو اکثر مہمانوں کا پہلا تاثر ہوتے ہیں جو انہیں بصری طور پر دلکش اور سمجھنے میں آسان بناتے ہیں۔

کاروری/بوفے سروس فراہم کریں

1. تعارف: خوراک اور مشروبات کی خدمات کے اصول

فوڈ اینڈ بیورج (F&B) سروس مہمان نوازی کی صنعت کے سب سے بڑے اور متنوع شعبوں میں سے ایک ہے۔ چاہے وہ فائن ڈائننگ ریسٹورانٹ ہو، آرام دہ کیفے ہو، یا ہسپتال کی کیفے ٹیریا میں، بنیادی اصول وہی رہتے ہیں:

- کھانے اور مشروبات کے معیار میں مستقل مزاجی۔
- کسٹمر کی توجہ توجہ توجہ کے ذریعے توجہ دینا، مہذب اور مؤثر سروس کے ذریعے۔
- پیسے کی قیمت، تاکہ مہمان مجموعی تجربے سے مطمئن محسوس کریں۔

تاہم، خدمات کی فراہمی ادارے کی قسم، مقام، مینو اسٹائل، اور متوقع رسمی کارروائی کی سطح پر بہت مختلف ہوتی ہے۔ مصروف کنونشن سینٹر میں بوفے لائن ہوٹل کے ڈائننگ روم میں پلیٹڈ سروس سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرے گی۔

2. قیام کی خصوصیات

کھانے اور مشروبات کی خدمات مختلف اداروں میں فراہم کی جاتی ہیں:

- ریسٹوران – مکمل ٹیبل سروس، متنوع مینو اسٹائلز، فاسٹ کیڑول سے لے کر عمدہ کھانے تک۔
- ہوٹل – ریسٹوران، کیفے، اور روم سروس؛ مینو کی پیشکش قیمت اور گاہکوں پر منحصر ہے۔
- کلبز – بٹرو طرز کے کھانے، سیلف سروس بوفے، یا مختلف آؤٹ لیٹس میں آلا کارٹے کھانا۔
- کیفے – بلکے مینو (سوپ، سینڈویچز، پیسٹریز) جن میں مخلوط کاؤنٹر اور ٹیبل سروس شامل ہیں۔
- ایونٹ وینیوز/کنونشن سینٹرز – سینکروز مہمانوں کے لیے بڑے پیمانے پر بوفے/کیڑنگ آپریشنز۔
- ریزورٹس اور کروڑ شپ – مہمانوں کے تجربے کے لیے مرکزی مقدار میں بوفے سروس۔
- ایئرلائنر اینڈ ٹرینز – ان ہاؤس کلائٹس کے لیے ٹرے یا ٹرالی سروس۔
- ہسپتال/بزرگوں کی دیکھ بھال – غذائیت کے لحاظ سے متوازن، اکثر سائیکل مینو، جو براہ راست مریضوں/رہائشیوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔
- فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس – کاؤنٹر سروس، محدود مینو، رفتار پر مبنی۔
- ٹرک اسٹاپس اور روڈ ہاؤسز – سیلف سروس بوفے اور آرام دہ کھانے، جو مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔

(ٹرینز نوٹ: مقامی کھانے (مثلاً ہوٹل بوفے بمقابلہ شادی کی ضیافت) استعمال کریں تاکہ سیکھنے والے دیکھ سکیں کہ سروس اسٹائل مقام کے ساتھ کیسے بدلتا ہے۔

3. مختلف اداروں کی خصوصیات

ادارہ	خصوصیات
ریستوران	سروس کا انداز مقام اور کلائنٹس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خاندانی ریستوران = جلدی، آرام دہ کھانا۔ عمدہ کھانا = پچھیدہ، مہارت پر مبنی سروس۔ فاسٹ فوڈ = کاؤنٹر/ٹیک اوے (چین بیسڈ)۔
کلب	مختلف سروس اسٹائلز (ہونے، بسرو، آلا کارٹے) پیش کرتا ہے۔ مہمان سہولت، اچھی قیمت اور مانوس کھانے کے اختیارات کی توقع رکھتے ہیں۔
کیفے	بلکے کھانوں اور مشروبات پر توجہ دیں۔ اکثر ٹیبل + کاؤنٹر سروس۔ بنیادی بات: کارکردگی، دوستانہ، اور تازہ پیشکش۔
ہوٹل	ریستوران اندرونی یا آؤٹ سروس ہو سکتے ہیں۔ سروس میں آرام دہ ناشتے کے ہونے سے لے کر شاندار عمدہ کھانے تک شامل ہیں۔
تقریبات/کنونشن سینٹرز	بڑے پیمانے پر ہونے، رفتار، ہم آہنگی، اور حجم کے انتظام پر زور۔
صحت کی دیکھ بھال (ہسپتال/بزرگوں کی دیکھ بھال)	سروس ٹرے/ٹری کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ غذائیت، صفائی ستھرائی، اور وقت کی پابندی ضروری ہیں۔

4. کسٹمر سروس بطور بنیادی اصول

ہونے اور کاروری سروس میں، صارفین کی رائے درج ذیل سے متاثر ہوتی ہے:

1. مصنوعات کا معیار۔ کھانوں کی تازگی، درست درجہ حرارت، دلکش پیشکش۔
2. سروس ایفیکٹو۔ اچھی طرح منظم بہاؤ، مہذب عملہ، کم سے کم انتظار کے اوقات۔
3. پیسے کی قدر۔ کھانے کی اقسام اور معیار قیمت کو جائز قرار دیتے ہیں۔

زبانی تشہیر اب بھی سب سے طاقتور مارکیٹنگ ٹول ہے۔ جب مہمان مطمئن ہو کر جاتے ہیں تو وہ نہ صرف واپس آتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس جگہ کی سفارش کرتے ہیں۔

یہ عملے کو ہمیشہ فیزیکی جمع کرنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ آیا مہمانوں کی توقعات درج ذیل کے حوالے سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں:

- کھانے اور سروس کا معیار۔
- ترسیل کی کارکردگی۔
- مجموعی اطمینان اور قدر کا ادراک۔

5. ہونے/کاروری سروس سے لتکنگ

کاروری اور ہونے سروس عملے پر منفرد تقاضے رکھتی ہے:

- پیشکش بہت اہم ہے: کھانے کی نمائشیں تازہ، رنگین اور مزیدار ہونی چاہئیں۔
- فلو ٹینجمنٹ لمبی قطاروں یا زیادہ بھیڑ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔
- مہمان اکثر خود ہی خدمات فراہم کرتے ہیں، لیکن عملے کو مدد، بحالی اور رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔

- سفیٹی اور ہائین درست خوراک کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنا، الرجینز کی لیبلنگ کرنا، اور رساؤ کو فوری طور پر صاف کرنا غیر متنازعہ ہے۔

آخرا، کاروری/پونے سروس رفتار، حجم، اور مہمان نوازی کے توازن کے بارے میں ہے جبکہ ادارے کی شہرت کو برقرار رکھنا ہے۔
لرننگ یونٹ 3.6: خوراک کو ذخیرہ کرنے، رکھنے اور پیش کرنے کے دوران خوراک کی حفاظت کو برقرار رکھنا

بیان:

خوراک کی حفاظت ہر آؤٹ لیٹس میں بہت اہم ہے۔ عملے کو صفائی کے معیار پر عمل کر کے آلودگی اور خراب ہونے سے بچاؤ کرنا چاہیے۔
شقیں:

- خوراک کو محفوظ درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔
- کراس کنٹینمنٹ سے بچیں (کچا بمقابلہ پکایا ہوا)۔
- سرو کرتے وقت دستانے یا چھتے استعمال کریں۔
- باقاعدگی سے ہولڈنگ آلات (فریج، ہاٹ پلیٹس) چیک کریں۔

عملی یونٹس (PUs)

- عملی یونٹ 3.1: ورک سٹیشن اور آلات کی تیاری → یقینی بنائیں کہ تمام ٹرے، کٹلری، شیشے کے برتن صاف اور تیار ہوں۔
- عملی یونٹ 3.2: سروس ایریاز کی صفائی اور صفائی → میزوں کو صاف کرنا، سطحوں کو جراثیم سے پاک کرنا، فرش چیک کرنا۔
- عملی یونٹ 3.3: کھانے کے علاقے (میز کی ترتیب اور میز ان پلیس) → کٹلری، برتن، شیشے کے برتن، اور سجاوٹ کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا۔
- عملی یونٹ 3.4: سروس اسٹیشنز کو اسٹاکنگ اور ری پلیننگ → نیپکنز، مصالحوں جات، ٹرے، گلاسز کی دیکھ بھال۔
- عملی یونٹ 3.5: لینن اور کٹلری سنبھالنے کی تکنیکیں → نیپکن کو فولڈ کریں، چھج چھج کریں، سطحوں کو چھونے سے گریز کریں۔
- عملی یونٹ 3.6: شیشے کے برتن اور برتنوں کی تیاری → چپس یا دراؤں کا معائنہ کریں، بغیر لٹ والے کپڑے سے پالش کریں۔
- عملی یونٹ 3.7: سروس سے پہلے چیک اور معائنہ کے طریقہ کار → مینو کی دستیابی، ریزرویشن کی فرسٹیں، سروس کی تیاری چیک کریں۔
- عملی یونٹ 3.8: مہمانوں کا استقبال اور بھٹانا + پلیٹس کو مؤثر طریقے سے صاف کرنا → اسکوٹ مہمانوں کو صحیح ترتیب میں پیش کریں، بغیر کسی خلل کے پلیٹیں صاف کریں۔
- عملی یونٹ 3.9: اگلی سروس کے لیے میزوں کی سیٹ کرنا → لینن تبدیل کرنا، چھج دوبارہ سیٹ کرنا، نئے آنے والوں کی تیاری کرنا۔
- عملی یونٹ 3.10: فضلہ تلف کرنا اور سروس کے بعد صفائی → فضلہ الگ کرنا، فرش صاف کرنا، اسٹیشنز کو صاف کرنا۔
- عملی یونٹ 3.11: شفٹ کے اختتام پر ڈیوٹی اور رپورٹنگ → رپورٹس جمع کروانا، اسٹاک گننا، کیپٹن کی کلوزنگ ڈیوٹی میں مدد کرنا۔

ٹریئر نوٹس

- سلام اور آرڈر لینے والے رول پلے کا مظاہرہ کریں۔
- ٹیبل سیٹ اپ اور کلیننگ کی پریکٹس ٹائمڈ ڈرلز کے تحت۔
- ادائیگی کی سیولیشن کے لیے اصلی POS یا ڈمی مشینیں استعمال کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: سلام، سرونگ، اور خوراک کی حفاظت کے مراحل بیان کرتا ہے۔
- مہارت: میز کی ترتیب، مشروبات کی خدمت، پلیٹیں صاف کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔
- رویہ: سروس سائیکل کے دوران شائستگی، کارکردگی اور پیشہ ورانہ رویہ ظاہر کرتا ہے۔

ماڈیول 4: کاروری/بوفے سروس فراہم کریں

ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

- بوفے اور کاروری ڈسپلے کو مہمان نوازی کے معیار کے مطابق تیار، ترتیب اور برقرار رکھیں۔
- بوفے اور کاروری سروس کے دوران مہمانوں کی خدمت کریں اور ان کی مدد کریں۔
- درست خوراک کی حفاظت، درجہ حرارت کنٹرول اور تقسیم کے طریقے اپنائیں۔
- مہمانوں کے بہاؤ، قطاروں اور غذائی درخواستوں کو منظم کریں۔
- صفائی برقرار رکھیں، اسٹاک کی فراہمی کریں، اور بوفے/کاروری سروس کو مؤثر طریقے سے بند کریں۔

لرننگ یونٹس (LUs)

لرننگ یونٹ 4.1: کاروری/بوفے ڈسپلے کی تیاری اور دیکھ بھال

بیان:

بوفے یا کاروری ڈسپلے بہت سی مہمان نوازی کی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ظاہری طور پر دلکش، صاف ستھرائی اور اچھی طرح سے موجود ہونا چاہیے۔ کھانے کی پیشکش مہمانوں کی اطمینان، بھوک بڑھانے اور معیار کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ڈسپلے کی دیکھ بھال کے لیے بھی مسلسل چوکسی درکار ہوتی ہے تاکہ صفائی، تازگی اور درجہ حرارت پر کنٹرول یقینی بنایا جاسکے۔

نکات:

- کھانے کو خوبصورت اور متوازن انداز میں ترتیب دیں۔
- ڈشز کو واضح طور پر لیبل کریں (الرجی کی معلومات کے ساتھ)۔
- درجہ حرارت مانیٹر کریں (گرم کھانا، گرم کھانا، ٹھنڈا کھانا ٹھنڈا)۔
- آئٹمز کو ختم ہونے سے پہلے دوبارہ بھر دیں۔
- سرونگ ایریا کو صاف اور منظم رکھیں۔

لرننگ پونٹ 4.2: کاروری/بوفے میں مہمانوں کی خدمت اور مدد کریں

بیان:

بوفے سروس مہمانوں کی رہنمائی پر مبنی ہے، لیکن عملہ مہمانوں کی رہنمائی، گوشت کاٹنے، کھانے کی تقسیم کرنے، اور غذائی سوالات کے جواب دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شائستگی، کارکردگی، اور توجہ بہت اہم ہیں۔

نکات:

- مہمانوں کا استقبال کریں اور انہیں بوفے ایریا تک لے جائیں۔
- بزرگوں، بچوں یا مختلف صلاحیتوں والے مہمانوں کی مدد کریں۔
- گوشت کو درست سٹگی سے کاٹیں اور مقدار پر قابو رکھیں۔
- مہمانوں کے اجزاء اور غذائی ضروریات کے بارے میں سوالات کے جواب دیں۔
- دوستانہ اور پیشہ ورانہ بات چیت برقرار رکھیں۔

عملی پونٹس (PUs)

عملی پونٹ 4.1: کاروری اور بوفے سروس کے انداز کو سمجھنا

- راوی: سیلف سروس بوفے، معاون بوفے، اور کاروری اسٹیشنز کے درمیان فرق جائیں۔
- شقیں:

- بوفے = وسیع انتخاب، سیلف سروس۔
- کاروری = شیف/سرور کے گوشت کے حصے۔
- اسسٹڈ بوفے = عملہ حصہ لینے میں مدد۔

عملی پونٹ 4.2: بوفے/کاروری آلات اور ڈسپلے پونٹس کی تیاری

- راوی: خدمت سے پہلے، سامان (رگڑنے والے برتن، کندہ کاری کے تختے، چھینک سے بچاؤ کے گارڈز، ٹرے) کو صاف، جراثیم سے پاک اور ترتیب دینا ضروری ہے۔

نکات:

- ہیڈنگ/کولنگ پونٹس چیک کریں۔
- تمام سطحوں کو صاف کریں۔
- چھینکنے والے گارڈز کو صحیح طریقے سے رکھیں۔
- تراشنے کے چاقو محفوظ طریقے سے تیار کریں۔

عملی پونٹ 4.3: بوفے ٹیبلز کی ترتیب اور کھانے کی پیشکش

- بیان: بوفے ٹیبلز کی ترتیب دلکش اور کارآمد ہونی چاہیے۔ مہمانوں کو بغیر کسی بھیڑ کے آسانی سے چلنا چاہیے۔

نکات:

- ڈشز کو منطقی ترتیب میں ترتیب دیں (اسٹارٹرز → مین → بیٹھا)۔
- پیشکش کے لیے ہائٹ، گارنیش اور سمیٹری استعمال کریں۔
- کٹلری، نیپلن اور پلینین آسانی سے رکھیں۔

عملی یونٹ 4.4: محفوظ خوراک سنبھالنا اور درجہ حرارت کنٹرول

- بیان: خوراک کی حفاظت بہت اہم ہے۔ گرم کھانے 63°C سے اوپر رہنا چاہیے، اور ٹھنڈے کھانے 5°C سے کم۔ عملے کو براہ راست ہاتھ سے رابطہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

• نکات:

- دستاں، چمچے یا سرو کرنے کے چمچ استعمال کریں۔
- کھانے کے درجہ حرارت کی باقاعدگی سے نگرانی کریں۔
- آدھے سٹالی ٹرے بھرنے کے بجائے کھانا بدل دیں۔
- کراس کنٹینینٹیشن کو روکیں۔

عملی یونٹ 4.5: حصہ کنٹرول اور کندہ کاری کی تکنیکیں

- بیان: مقدار پر کنٹرول ضیاع کو کم کرتا ہے اور انصاف کو یقینی بناتا ہے۔ گوشت کو کاٹنے کے لیے مستقل مزاجی اور پیشکش کی مہارت درکار ہوتی ہے۔

• نکات:

- ہر مہمان کے لیے یکساں مقدار پیش کریں۔
- صحیح کندہ کاری کے زاویے اور چاقو استعمال کریں۔
- مہمانوں کی درخواستوں کا احترام کریں (مٹھے / موٹے سلاشز)۔
- خوراک کی کمی سے بچنے کے لیے زیادہ سرو کرنے سے گریز کریں۔

عملی یونٹ 4.6: مہمانوں کے بہاؤ کا انتظام اور قطار ہینڈلنگ

- بیان: بونے کی کامیابی مہمانوں کی ہموار حرکت پر منحصر ہے۔ لمبی قطاریں مہمانوں کو پریشان کرتی ہیں۔ عملے کو بہاؤ کو شائستگی سے سنبھالنا چاہیے۔

• نکات:

- مہمانوں کو بونے کے صحیح سرے سے شروع کرنے کی رہنمائی کریں۔
- شائستگی سے قطار میں پھلانگ لگانے سے روکیں۔
- رش کے دوران متعدد سروس پوائنٹس کھولیں۔
- مہمانوں کی مدد کریں بھاری ٹرے کے ساتھ۔

عملی یونٹ 4.7: مہمانوں کی خدمت شائستگی اور مؤثریت کے ساتھ کرنا

- راوی: خود خدمت میں بھی، عملے کو اعلیٰ سطح کی آداب برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ چھوٹے اشارے (نیپکن پیش کرنا، ٹرے تیار کرنا مہمانوں کی تسکین کو بڑھاتے ہیں۔

• نکات:

- مسکراؤ، سلام کرو، اور مدد کی پیشکش کرو۔
- توجہ دیں بغیر مداخلت کیے۔
- مہمانوں کی ضروریات کا فوری جواب دیں۔

عملی یونٹ 4.8: سروس کے دوران صفائی برقرار رکھنا

- بیان: صفائی مسلسل ہونی چاہیے، صرف سروس سے پہلے یا بعد میں نہیں۔ عملہ کو چاہیے کہ وہ گرنے اور گندے پلیٹوں کو پچکے سے صاف کرے۔

• نکات:

- فوری طور پر گرنے والے مواد کو صاف کریں۔
- گندے کٹلری یا برتن بدلیں۔
- بونے کاؤنٹرز کو صاف ستھرا رکھیں۔

عملی یونٹ 4.9: خوراک کی فراہمی اور ذخائر کی سطح کی نگرانی

- راوی: خوراک ختم ہونے سے شہرت متاثر ہوتی ہے۔ عملے کو اسٹاک کی نگرانی کرنی ہوتی ہے اور برتن خالی ہونے سے پہلے دوبارہ بھرنے ہوتا ہے۔

• نکات:

- کچن کے ساتھ ریفلز کے لیے رابطہ کریں۔
- کنٹینرز کو مکمل طور پر تبدیل کریں، پھرائی سے نہیں۔
- مہمانوں کی تعداد بمقابلہ اسٹاک کو ٹریک کریں۔
-

عملی یونٹ 4.10: بونے/کاروری ایما کو صاف کرنا اور ری سیٹ کرنا

- بیان: جب مہمان ختم کر لیں، تو عملہ لگے گروپ کے لیے جلدی سے ری سیٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہاں کارکردگی سروس کو ہموار رکھتی ہے۔

• نکات:

- صاف گندمی پلیٹیں اور استعمال شدہ کٹلری۔
- لیٹین تبدیل کریں، ٹرے دوبارہ بھریں۔
- صاف بورڈز/چاقوؤں کے ساتھ کارونگ اسٹیشن کو ری سیٹ کریں۔

عملی یونٹ 4.11: مہمانوں کی درخواستوں اور غذائی ضروریات سے نمٹنا

- بیان: مہمانوں کو الرجی، غذائی پابندیاں، یا ثقافتی ترجیحات ہو سکتی ہیں۔ عملے کو پیشہ ورانہ انداز میں جواب دینا چاہیے۔

• نکات:

- عام الرجیز (گری دار میوے، گلوٹن، ڈیری) سے آگاہ رہیں۔
- مہمانوں کو مناسب آپشنز کی طرف رہنمائی کریں۔
- خاص درخواستوں کے لیے کچن کو اطلاع دیں۔
- کبھی اندازہ نہ لگائیں، شیف سے تصدیق کریں۔

عملی یونٹ 4.12: اختتامی طریقہ کار اور سروس کے بعد صفائی

- راوی: سروس کے بعد، بونے کو صاف کرنا ضروری ہے، سامان ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، اور اسٹاک کا حساب رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اگلے یونٹ کے لیے تیاری کو یقینی بناتا ہے۔

• نکات:

- ہیڈنگ/کولنگ یونٹس بند کریں۔
- بچا ہوا کھانا محفوظ طریقے سے محفوظ رکھیں یا پالیسی کے مطابق ضائع کر دیں۔
- تمام آلات کو دھو کر صاف کریں۔
- مکمل کلوننگ چیک لسٹ/رپورٹ۔

ٹریئر نوٹس

- پریکٹس کے لیے اصلی بونے سیٹ اپ استعمال کریں۔
- کندہ کاری کی تکنیکیں دکھائیں۔
- قطاروں کو منظم کرنا اور غذائی سوالات کو سنبھالنا رول پلے۔

تشخیصی معیار

- علم: بونے کے انداز، خوراک کی حفاظت کے قواعد، اور سروس کے طریقہ کار کی نشاندہی کرتا ہے۔
- مہارتیں: ٹیبل سیٹ اپ، کارونگ، ری پلیٹمنٹ، اور کیو مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔
- رویہ: خدمت کے دوران شائستگی، صفائی کی آگاہی، اور توجہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔



تیاری

مناسب سروس لیول حاصل کرنے کے لیے ادارے کا قیام ایک اہم جزو ہے۔ اس کے لیے فراہم کی جانے والی سروس کی قسم، معیار اور قیمت کے لحاظ سے مختلف توجہ درکار ہوتی ہے:

ٹیبل سروس

- سروس کی قسم کے مطابق، میزوں کو میز کے منصوبے کے مطابق ترتیب دینا اور ترتیب دینا ضروری ہے
- ٹیبل کلائتھر یا انڈرلے اور ٹیبل کلائتھر لگائے جاتے ہیں
- اوورلے اکثر ٹیبل کلائتھر کی حفاظت اور ظاہری خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں
- سرویس یا نیپکن ترتیب دیے جاتے ہیں
- کٹری، روٹی اور مکھن کی پلیٹیں، نیز گلاس بھی ٹیبل ڈی ہوٹ یا آلا کارٹے سروس کے لیے رکھے جاتے ہیں

فنکشن سروس

- میزوں فنکشن کے انداز، گروپ کے سائز اور موقع کی بنیاد پر ترتیب دی جاتی ہیں
- U-شکل - اکثر کانفرنس طرز کے فنکشنز کے لیے استعمال ہوتی ہے
- پنکھے کی شکل - میزوں مرکزی میز کو سیدھی یا زاویے پر اچھی طرح دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں
- بیہنگ بون - مرکز میں پیڑ یا رقص کے لیے خالی جگہ بناتا ہے
- بونے - کمرے کے آخر میں آسان رسائی کے لیے رکھا جاتا ہے
- گول میزوں - میز پر موجود تمام مہمانوں کے درمیان رابطے کے لیے بہترین

- لمبی بیچ - اس سے بڑی تعداد میں لوگوں کو قریب سے فٹ کیا جا سکتا ہے

کاؤنٹر سروس

ادارے کے مطابق میزوں کو میز کے منصوبے کے مطابق ترتیب دینا اور ترتیب دینا ضروری ہے

- کاغذی ٹیبل کلاتھ رکھی جا سکتی ہے یا اگر ٹیبل کور استعمال نہ کیا جائے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے
- کنٹری سیٹ کریں، یہ کوکریوں، کنٹری ٹرے میں یا سرویٹ کے اندر رول کیا جا سکتا ہے
- مصالحو جات لگائیں
- آرڈر لینے کی جگہ سیٹ کریں جس میں ڈاکٹ بکس اور ٹیبل نمبرز شامل ہیں تاکہ حوالہ کے پلے



کاروری سروس

ادارے کے مطابق میزوں کو میز کے منصوبے کے مطابق ترتیب دینا اور ترتیب دینا ضروری ہے۔ کینیٹین کی سروس بھی ملتی جلتی ہے لیکن اس میں فوڈ سیلف سروس آپشن اور ایک ٹرے کاغذی بھی ہو سکتی ہے جس پر گاہک اپنا ٹرے سلائڈ کر سکتا ہے

- ٹرے - آرڈر ڈسپلے کے آغاز میں سیٹ اپ کریں
- پلیٹس - آرڈر ڈسپلے کے آغاز میں سیٹ کی جاتی ہیں
- کنٹری - آرڈر ڈسپلے کے آغاز میں لگائی جاتی ہے
- کندہ کاری اسٹیشن - سروس ایریا جہاں کھانا ترتیب کے مطابق پلیٹوں پر رکھا جاتا ہے

- مصالحو جات - آرڈر ڈسپلے کے آخر میں لگائی جاتی ہیں
- سرویٹس - آرڈرنگ ڈسپلے کے آخر میں سیٹ اپ کی جاتی ہیں



ہونے سروس

ادارے کے مطابق میزوں کو میز کے منصوبے کے مطابق ترتیب دینا اور ترتیب دینا ضروری ہے



- پلیٹس - آرڈر ڈسپلے کے آغاز میں سیٹ کی جاتی ہیں
- کنٹری - فنکشن سیٹ اپ کے مطابق میز پر رکھی جاتی ہے
- فوڈ اسٹیشن - مکمل سیلف سروس یا جزوی اور سیلف سروس کا مرکب، مثلاً گوشت کی اشیاء کے پلے کارونگ اسٹیشن

شیف کی طرف سے گاہکوں کی پسند کی بنیاد پر سمندری غذا پیش کی جاتی ہے تاکہ گاہک اپنی پلیٹیں زیادہ لوڈ نہ کریں

- ہونے - اسٹارٹرز، مین کورسز اور میٹھے کے اہم حصوں میں تقسیم کریں

کیفے سروس

ادارے کے مطابق میزوں کو میز کے منصوبے کے مطابق ترتیب دینا اور ترتیب دینا ضروری ہے

- سیلف سروس - ہونے یا کاؤنٹر سروس کی بنیاد پر سیٹ اپ
- مکمل سروس - نیپلز اسٹیبلشمنٹ پالیسیوں کے مطابق ترتیب دی جاتی ہیں اور انہیں لا کارٹے سروس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے
- مخلوط سروس - کھانا سیلف سروس یا جزوی اور سیلف سروس کا مرکب ہو سکتا ہے مثلاً گوشت کے پلے سروس اسٹیشن جبکہ سلاڈ یا انفرادی میٹھے گاہک لے سکتے ہیں



ماڈیول کے مقاصد

اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:

- ہر قسم کے فوڈ آؤٹ لیٹ کے مہمانوں کو مؤثر اور کارگر سروس فراہم کریں۔
- فون کالز کو پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالیں۔
- مہمانوں کی توقعات پر پورا اتریں اور ان سے بڑھ کر ذاتی نوعیت کی خدمات فراہم کریں۔
- شکایات اور تعریفوں کو تعمیری انداز میں سنبھالیں۔
- مہمانوں کے ساتھ بات چیت میں گرومنگ، بات چیت اور ثقافتی حساسیت کا استعمال کریں۔

لرننگ یونٹس (LUs)

لرننگ یونٹ 5.1: فوڈ آؤٹ لیٹ کے مہمانوں کے لیے مؤثر اور کارگر سروس فراہم کرنا

بیان:

مؤثر مہمان خدمات رفتار، درستگی اور شائستگی کو یکجا کرتی ہیں۔ مہمانوں کو بغیر غیر ضروری تاخیر کے خوش آمدید، قدر اور خدمت کا احساس ہونا چاہیے۔ کارکردگی میز کی ہموار تبدیلی کو یقینی بناتی ہے، جبکہ مؤثریت مہمانوں کی اطمینان کو یقینی بناتی ہے۔

نکات:

- مہمانوں کو فوراً خوش آمدید کہیں۔
- آرڈرز کو صحیح طریقے سے اور وقت پر پیش کریں۔
- مہمانوں کی ضروریات کا اندازہ لگائیں (پانی بھرنا، مصالحوں جات پیش کرنا)۔
- رفتار کو ذاتی نوعیت کی دیکھ بھال کے ساتھ متوازن رکھیں۔

لرننگ یونٹ 5.2: فون کالز کو سنبھالنا

بیان:

ٹیلیفون سروس ریستوران کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔ کالز میں ریزرویشنز، استفسارات، یا شکایات شامل ہو سکتی ہیں۔ عملے کو شائستگی سے جواب دینا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اور درست معلومات فراہم کرنی چاہیے۔

نکات:

- تین رنگز کے اندر جواب دیں، نام اور ریستورانٹ کے ساتھ سلام کریں۔
- شائستہ، صاف اور پرسکون لہجہ استعمال کریں۔
- ریزرویشنز کو درست طریقے سے ریکارڈ کریں۔
- شکایات کو ہمدردی اور پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالیں۔

لرنگ پونٹ 5.3: مہمانوں کی توقعات پر پورا اترنا اور ان سے بڑھ کر

بیان:

مہمانوں کی تسلی اس بات پر منحصر ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے— اور چھوٹے اشاروں کے ذریعے توقعات سے بڑھ کر کام کیا جائے۔
توقعات سے بڑھ کر جانا وفاداری پیدا کرتا ہے اور مثبت جائزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

نکات:

- ضروریات کا اندازہ لگائیں (ہائی چیئر پیش کریں، میز کو ایڈجسٹ کریں)۔
- مہمانوں کی ترجیحات کی بنیاد پر سفارشات پیش کریں۔
- ذاتی توجہ دیں (نام، پسندیدہ پکوان یاد رکھیں)۔
- چھوٹے اشاروں سے سرپرائز کریں (مفت ڈرنک ریفل، شکریہ کا نوٹ)۔

لرنگ پونٹ 5.4: مہمانوں کی شکایات اور تعریفوں سے نمٹیں

بیان:

شکایات بہتری کے مواقع ہیں۔ عملے کو انہیں پرسکون انداز میں سنبھالنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اور فوری حل فراہم کرنا چاہیے۔ تعریفیں شکرگزاری کے ساتھ قبول کی جانی چاہئیں اور ٹیم کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے تاکہ حوصلہ بڑھایا جاسکے۔

نکات:

- پرسکون رہیں، پوری طرح سنیں، بحث سے گریز کریں۔
- دل سے معذرت کریں، چاہے قصوروار نہ ہوں۔
- حل پیش کریں (متبادل ڈش، مفت میٹھا)۔
- مہمانوں کا شکریہ کہہ کر وہ تعریفیں اور فیڈبک فراہم کریں۔

مہمانوں کا استقبال اور بیٹھنے کی جگہ

1. تعارف

خوش آمدید کہنے اور بیٹھنے کا عمل وہ پہلا تاثر ہوتا ہے جو مہمان کو کسی ریستوران یا فوڈ سروس ادارے کے بارے میں محسوس ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گاہک مقام کے بارے میں آمد کے پہلے 10 سیکنڈ میں ہی رائے بنا لیتے ہیں۔ لہذا، ہر قدم — ابتدائی ٹیلیفون بلنگ سے لے کر مہمانوں کو ان کی میز تک لے جانے تک — پیشہ ورانہ، گرمجوش اور مؤثر ہونا چاہیے۔

مقصد یہ ہے کہ مہمانوں کو یہ احساس دلایا جائے:

- خوش آمدید اور پہلی ملاقات سے ہی قابل قدر ہیں۔
- جب وہ کھانے کے تجربے میں داخل ہوتے ہیں تو آرام دہ اور پرسکون محسوس ہوتے ہیں۔
- یقین رکھتے ہیں کہ انہیں بہترین سروس ملے گی۔

2. مہمانوں کا خیر مقدم: پہلا تاثر

ٹیلیفون بلنگز

- پیشہ ورانہ لہجہ اور زبان استعمال کریں۔
- تفصیلات کی تصدیق کریں: نام، وقت، مہمانوں کی تعداد، خاص درخواستیں۔
- شائستہ اختتام پیش کریں: "ہم آج شام آپ کا استقبال کرنے کے منتظر ہیں۔"

مقام پر پہنچنے پر

- مہمانوں کو کبھی بھی داخلی دروازے پر بغیر توجہ کے انتظار میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔
- میٹری ڈمی یا سپروائزر عام طور پر اس مرحلے کی قیادت کرتے ہیں، لیکن تمام عملہ ذمہ داری بانٹتا ہے۔

بہترین طریقے:

- فوراً مسکرائیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔
- اگر مصروف ہوں تو فوری طور پر تسلیم کریں:
 - "شب بخیر، میں ابھی آتا ہوں۔"
 - "خواتین و حضرات، شام بخیر، فیچرا ریسٹورنٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام فرانسس ہے، اور میں آپ کی مدد کروں گا۔"

3. ریزرویشن ہینڈلنگ

- اگر کوئی بلنگ موجود ہو:
 - نام کی تصدیق کریں اور ریزرویشن سسٹم میں نشان زد کریں۔
 - بار یا لاؤج میں کھانے سے پہلے مشروبات پیش کریں۔
 - مخصوص میز تک لے جاؤ۔
- اگر کوئی بلنگ نہ ہو:
 - مناسب دستیاب میز تلاش کریں۔
 - اگر مکمل بک ہو:
 - ادب سے اطلاع دیں۔
 - انتظار کا وقت تجویز کریں یا انہیں بار میں مشروب سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیں۔
 - اگلی ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل کی بلنگ کی پیشکش کریں۔
- پروٹپ: ہمیشہ میزبان کا نام یاد رکھیں تاکہ کھانے کے دوران بہتر بات چیت ہو سکے۔

4. کلوک روم اور مہمانوں کی سہولت

- کوٹ، ٹوئیاں، اور چھتیاں لے جانے کی پیشکش کریں۔
- انہیں کلوک روم کی سہولیات میں محفوظ رکھیں۔
- سروس کے اختتام پر جلد اور محفوظ واپسی کو یقینی بنائیں۔

5. مہمانوں کو ان کی میز تک لے جانا

- مہمانوں سے شائستگی سے بات کریں:
 - "معاف کیجیے گا، آپ کی میز تیار ہے۔"
- آرام دہ رفتار سے راستہ دکھائیں — اگر مہمان بزرگ ہیں یا حرکت کی ضرورت ہے تو اس میں تبدیلی کریں۔
- ہمیشہ تھوڑا آگے چلیں، یقینی بنائیں کہ وہ بغیر جلد بازی کے پیچھے آئیں۔

6. نشستوں کا طریقہ کار

- مہمانوں کے لیے کرسیاں نکالو، خواتین پہلے۔
- انتظار کریں جب تک وہ تیار نہ ہوں، پھر نرمی سے کرسی کو آرام سے بٹھائیں۔
- اگر مناسب ہو تو مہمانوں کو سکون دینے کے لیے ہلکی پھلکی، دوستانہ گفتگو کریں۔
- گود میں سرویٹ کو احتیاط اور پیشہ ورانہ انداز میں رکھیں (دائیں طرف، ہاتھ میز کی سطح کے اوپر)۔
- اگر پہلے سے متعارف نہیں کرایا گیا تو خود کو یا مختص کردہ سرور کو پیش کریں۔

7. نشستوں کے دوران پیشہ ورانہ آداب

- مہمان کی بات چیت میں کبھی مداخلت نہ کریں جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔
- جلد بازی کرنے یا بے صبر نظر آنے سے گریز کریں۔
- پارٹی کے میزبان کی شناخت کریں اور اس کا اعتراف کریں — وہ اکثر وائن آرڈر کرنے یا بل ادا کرنے جیسے فیصلوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

8. اہم ٹرینر نوٹس

- جسمانی زبان: مسکراہٹ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، پراعتماد انداز اپنانا۔
- لہجہ: شائستہ، پرسکون، خوش آمدید کہنے والا۔
- مہمانوں کی آگاہی: مہمانوں کے رویے کو پڑھیں — کچھ گرم گفتگو کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ خاموش رسمی انداز کو اہمیت دیتے ہیں۔
- مستقل مزاجی: ہر مہمان کو یکساں طور پر خوش آمدید محسوس ہونا چاہیے، چاہے پہلی بار ہو یا باقاعدہ۔

عملی پونٹس (PUs)

عملی پونٹ 5.1: مہمانوں کی توقعات اور سروس اسٹینڈرڈز کو سمجھنا

- بیان: مہمان کارکردگی، صفائی، شائستگی اور معیار کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کو سمجھنا مسلسل سروس کو یقینی بناتا ہے۔
- بلڈس: سروس کے معیار سیکھیں، توقعات کا اندازہ لگائیں، SOPs لاگو کریں۔

عملی یونٹ 5.2: پیشہ ورانہ گرومنگ اور پہلی تاثرات

- راوی: ظاہری شکل اور پہلا تاثر مہمانوں کے تاثرات پر گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔
- گولیاں: صاف یونیفارم، صاف ستھری سنواری، پراعتماد جسمانی زبان۔

عملی یونٹ 5.3: مہمانوں کو گرمجوشی سے سلام اور شکریہ

- راوی: گرمجوش سلام دعا مثبت بات چیت کے لیے ماحول قائم کرتا ہے۔
- گولیاں: مسکراہٹ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، شائستہ جملے ("خوش آمدید، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟")۔

عملی یونٹ 5.4: مؤثر رابطہ اور فعال سننا

- بیان: مہمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ انہیں سنا اور سمجھا جا رہا ہے۔ فعال سننا غلطیوں کو کم کرتا ہے۔
- گولیاں: سر ہلاؤ، احکامات کی تصدیق کرو، مداخلت سے گریز کرو، شائستگی سے وضاحت کرو۔

عملی یونٹ 5.5: مہمانوں کی پوچھ گچھ اور درخواستوں کو سنبھالنا

- بیانیہ: سوالات کا فوری اور درست حل پیشہ ورانہ رویہ ظاہر کرتا ہے۔
- بلٹس: واضح جواب دیں، تفصیلات کی تصدیق کریں، درخواستیں فوری طور پر پورا کریں۔

عملی یونٹ 5.6: مہمان کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے سروس کو ذاتی نوعیت دینا

- راوی: مہمان ذاتی نوعیت کے لمس کو سراہتے ہیں۔
- بلٹس: نام کے حساب سے پتہ، ترجیحات یاد رکھیں، حسب ضرورت تجاویز پیش کریں۔

عملی یونٹ 5.7: مسائل حل کرنا اور شکایات کو سنبھالنا

- راوی: مہمانوں کی شکایات کے لیے ہمدردی اور حل درکار ہوتے ہیں، بہانے نہیں۔
- بلٹس: پرسکون رہیں، معذرت کریں، فوری حل کریں، فالو اپ کریں۔

عملی یونٹ 5.8: ثقافتی حساسیت اور مہمانوں کے آداب

- بیان: باسپیشیلٹی اسٹاف کو ثقافتی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے اور سروس کو اسی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔
- گولیاں: ثقافتی کھانے کے طریقوں سے آگاہ رہیں، ذاتی جگہ کا احترام کریں، مفروضوں سے گریز کریں۔

عملی یونٹ 5.9: سروس ریکوری اور منفی کو مثبت میں بدلنا

- راوی: سروس ریکوری ایک ناخوش مہمان کو وفادار میں بدل دیتی ہے۔
- بلٹس: معذرت کریں، اگر ضرورت ہو تو معاوضہ دیں، فیڈبیک کے لیے شکریہ ادا کریں، بہتر سروس کی یقین دہانی کریں۔

عملی یونٹ 5.10: مثبت رویہ اور جسمانی زبان برقرار رکھنا

- بیان: مہمان فوراً موڈ اور رویے کو محسوس کرتے ہیں۔ مثبت سوچ سکون پیدا کرتی ہے۔
- گولیاں: مسکراہٹ، کھلا انداز اپنانا، پرسکون لہجہ، منفی اظہار سے گریز کرنا۔

عملی یونٹ 5.11: ٹیم ممبرز کے ساتھ ہم آہنگی تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے سروس حاصل کی جاسکے

- بیان: مہمان سروس ویٹرز، بسرز، شیپرز اور کیشیئرز کے درمیان ٹیم ورک پر منحصر ہے۔
- بلٹس: واضح بات چیت کریں، ٹیم کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام سنبھالیں۔

عملی یونٹ 5.12: اختلافی بات چیت اور مہمانوں کا پیشہ ورانہ طور پر شکریہ ادا کرنا

- راوی: آخری تاثر اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلا۔ پیشہ ورانہ اختتام مہمان کو اطمینان سے چھوڑنے کو یقینی بناتا ہے۔
- بلٹس: مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کریں، انہیں واپس آنے کی دعوت دیں، بل/ادائیگی کو آسانی سے سنبھالیں۔

ٹریینر نوٹس

- رول پلے مشقیں استعمال کریں: فون کال بینڈنگ، مہمانوں کی شکایات کا حل۔
- سمولیشن مشقیں چلانا: آرڈر لینا، مصروف اوقات میں ٹیم ورک۔
- بہترین سروس اور خراب سروس کی ویڈیو مثالیں فراہم کریں۔

تشخیصی معیار

- علم: مہمانوں کی خدمت کے معیارات، ثقافتی آداب، اور شکایات کے حل کی وضاحت کرتا ہے۔
- مہارتیں: فعال سننے، شائستہ بات چیت اور شکایات کے حل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- رویہ: ہمدردی، صبر، مثبتیت اور پیشہ ورانہ رویہ ظاہر کرتا ہے۔

ماڈیول کے مقاصد

- اس ماڈیول کے اختتام تک، سیکھنے والے یہ کر سکیں گے:
- مضبوط مہمانوں کے تعلقات بنائیں اور گاہکوں کی وفاداری کو منظم کریں۔
 - مارکیٹنگ، تعاون، اور مشغولیت کے لیے سوشل میڈیا ٹولز استعمال کریں۔
 - کاروباری اصولوں کو سمجھیں، خیالات پیدا کرنے سے لے کر کاروباری مالی معاونت تک۔
 - ماحولیاتی مسائل اور ان کے باسپیٹیبلٹی کاروباروں پر اثرات کو پہچانیں۔
 - پائیدار کاروباری طریقے اپنائیں، جن میں فضلہ مینجمنٹ اور سبز خریداری شامل ہیں۔
 - پوسٹ ٹریننگ اسیمنٹ اور سرٹیفیکیشن کے ذریعے علم کا مظاہرہ کریں۔

لرننگ یونٹس (LUs)

لرننگ یونٹ 6.1: مہمانوں کے تعلقات کا انتظام

بیان:

مہمانوں کے تعلقات کا انتظام (GRM) باسپیٹیبلٹی میں بار بار کاروبار کی بنیاد ہے۔ اعتماد قائم کرنا، اطمینان کو یقینی بنانا، اور مسائل کو حل کرنا وفاداری پیدا کرتا ہے۔ GRM میں مہمانوں کی رائے، ذاتی نوعیت کی بات چیت اور وفاداری پروگرامز کا استعمال شامل ہے تاکہ کلائنٹس کو برقرار رکھا جاسکے۔

نکات:

- مہمانوں کی ترجیحات (پسنیدہ پکوان، نشستوں کا انتخاب) ریکارڈ کریں۔
- بات چیت کو ذاتی بنائیں (شکریہ کے پیغامات، وفاداری کی پیشکشیں)۔
- مہمانوں کی رائے جمع کریں اور ان کا جواب دیں۔
- وفاداری کو مستقل مزاجی اور دیکھ بھال کے ذریعے بنائیں۔

لرننگ یونٹ 6.2: تعاون اور مشغولیت کے لیے سوشل میڈیا ٹولز کا استعمال

بیان:

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز (فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹرپ ایڈوائزر) مہمان نوازی کی مارکیٹنگ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ریسٹورانوں اور ہوٹلوں کو مینو، پروموشنز اور جائزے پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ براہ راست گاہکوں سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔

نکات:

- کھانوں اور تقریبات کی خوبصورت تصاویر پوسٹ کریں۔

- آن لائن جائزوں اور تبصروں کا فوری جواب دیں۔
- انگیجمنٹ کے لیے پولز، کہانیاں، اور لائو سیشنز استعمال کریں۔
- انفلوئنسرز اور فوڈ بلاگرز کے ساتھ تعاون کریں۔

انٹریپرائزور شپ سیکشن

انٹریپرائزور شپ کا تعارف:

کاروبار کا مطلب ہے مواقع کی نشاندہی کرنا، جدید حل تخلیق کرنا، اور کاروبار کو ترقی کے لیے منظم کرنا۔ با سپینیلیٹی میں، کاروبار نئے ریسٹورانوں، کیئرنگ سروسز اور فوڈ اسٹارٹ اپس کو فروغ دیتا ہے۔

- کاروباری سرگرمیوں کی اقسام: سماجی، چھوٹے کاروباری، قابل پیمائش، جرت پسند، طرز زندگی۔
- کاروباری خیالات کی تخلیق: مارکیٹ کی ضروریات، مہمانوں کی ترجیحات، اور مقامی ثقافت کی بنیاد پر۔
- کاروباری منصوبہ بندی اور حکمت عملی: مشن، اہداف، میٹرو ڈیزائن، قیمتیں، مارکیٹنگ پلان کی وضاحت کریں۔
- فنانشنگ برنس: ذرائع میں بچت، قرضے، سرمایہ کار، کراؤڈ فنڈنگ شامل ہیں۔
- چیلنجز اور حل: زیادہ مقابلہ، عملے کی تبدیلی، خوراک کی قیمتوں پر کنٹرول، معاشی اتار چڑھاؤ۔ حل میں جرت، تربیت، لاگت کا انتظام، اور ٹیکنالوجی کو اپنانا شامل ہیں۔

ماحولیاتی سیکشن

ماحولیاتی مسائل کا تعارف:

مہمان نوازی کے کاروبار توانائی کے استعمال، فضلے اور پانی کے استعمال کے ذریعے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پائیدار طریقے لاگت کو کم کرتے ہیں اور شہرت کو بہتر بناتے ہیں۔

- ماحولیاتی خطرات کی اقسام:
 - قدرتی: سیلاب، زلزلے۔
 - حیاتیاتی: بیکٹیریا، خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔
 - کیمیکل: صفائی کے کیمیکلز، کیڑے مار ادویات۔
 - جسمانی: شور، درجہ حرارت کی انتہائی۔
- انسانی سرگرمی کا اثر:
 - جنگلات کی کٹائی، فضلہ پیدا کرنا، پانی کا زیادہ استعمال، آلودگی۔
- تحفظ اور پائیداری:
 - توانائی بچائیں، خوراک کے ضیاع کو کم کریں، مواد کو ری سائیکل کریں۔
- موسمیاتی تبدیلی:
 - عالمی حدت آپریشنل خطرات کو بڑھاتی ہے (زیادہ کولنگ لاگت، سیلابی چین کے مسائل)۔
- تعاون کیسے کریں:
 - عملے کو توانائی بچانے کی تربیت دیں۔
 - سنگل یوز پلاسٹک کو کم کریں۔
 - مقامی اور موسمی خوراک حاصل کریں۔

لرننگ پونٹ 6.3: تجزیہ کے بعد تربیتی امتحان

بیان:

سیکھنے والے تمام ماڈولز کا امتحان دیتے ہیں تاکہ علم اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاسکے۔ یہ کام کی جگہ پر درخواست کے لیے تیاری کو یقینی بناتا ہے۔

نکات:

- تحریری اور عملی جائزہ۔
- حفاظت، پیشہ ورانہ مہارت، خدمت، مہماؤں کی دیکھ بھال، کاروبار، پائیداری کا احاطہ کرتا ہے۔

LU6.4: سرٹیفیکیشن تقریب

بیان:

تربیت کے اختتام پر، کامیاب سیکھنے والوں کو ان کی کامیابی کے اعتراف میں سرٹیفیکیشن دیے جاتے ہیں۔ یہ سیکھنے والوں کو متحرک کرتا ہے اور ان کے کیریئر میں قدر کا اضافہ کرتا ہے۔

نکات:

- سرٹیفیکیشن تقسیم کریں۔
- بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو تسلیم کریں۔
- سیکھنے والوں کو مزید مہارتوں کی ترقی کی ترغیب دیں۔

عملی پونٹس (PUs)

- عملی پونٹ 6.1: پائیدار کاروباری طریقوں کا تعارف
 - راوی: ماحول دوست اور سماجی طور پر ذمہ دار آپریشنز کی بنیادی باتیں سیکھیں۔
 - گولیاں: توانائی بچائیں، پلاسٹک کو کم کریں، اخلاقی پالیسیاں اپنائیں۔
- عملی پونٹ 6.2: ماحولیاتی اثرات کی شناخت اور کمی
 - بیان: آڈٹ آپریشنز تاکہ ماحولیاتی خطرات کی نشاندہی کی جاسکے اور انہیں حل کیا جاسکے۔
 - گولیاں: پانی/بجلی کے استعمال کی نگرانی کریں، خوراک کے فضلے کا انتظام کریں، ماحولیاتی صفائی کے سامان پر منتقل ہوں۔
- عملی پونٹ 6.3: فضلہ کا انتظام اور وسائل کی کارکردگی
 - راوی: مناسب تلفی، ری سائیکلنگ، اور خوراک کے ضیاع کو کم سے کم کرنا۔
 - گولیاں: نامیاتی فضلہ الگ کریں، شیشے/پلاسٹک کو ری سائیکل کریں، حصہ کنٹرول کریں۔
- عملی پونٹ 6.4: گرین سپلائی چین اور خریداری کی حکمت عملیاں
 - بیان: پائیداری کو فروغ دینے والے سپلائرز اور مصنوعات کا انتخاب۔
 - بلٹس: مقامی، موسمی اور ماحولیاتی تصدیق شدہ مصنوعات خریدیں۔ نقل و حمل کے اخراجات کم کریں۔
- عملی پونٹ 6.5: گروپ ٹاسک اور اسائنمنٹ

کاروباری سرگرمیوں کی اقسام

کاروباری سرگرمیوں کی کئی اقسام موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور توجہ ہے:

- چھوٹے کاروبار کی کاروبار: اس میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنا اور چلانا شامل ہے، جیسے کہ مقامی ریسٹوران، بیکری، یا کیریئرنگ سروس۔ بنیادی مقصد اکثر مالک اور ان کے خاندان کے لیے روزگار فراہم کرنا ہوتا ہے۔
- اسکیل اپ اسٹارٹ اپ انٹرپرائیوورشپ: یہ قسم تیز رفتار ترقی اور توسیع کے امکانات رکھنے والے کاروبار کی تخلیق پر مرکوز ہے۔ ایف اینڈ بی انڈسٹری میں مثالوں میں جدید فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارمز یا منفرد ریسٹوران کے تصورات شامل ہیں جنہیں فرنیچر کیا جاسکتا ہے۔
- بڑی کمپنیوں کی کاروباری صلاحیت: اس میں جدت اور قائم شدہ کارپوریشنز میں نئے منصوبے شامل ہیں۔ ایف اینڈ بی سیکٹر میں، یہ ایک بڑی فوڈ مینوفیکچر ہو سکتی ہے جو نئی پروڈکٹ لائن تیار کر رہی ہو یا ریسٹوران چین کا نیا تصور شروع کرنا۔
- سماجی کاروبار: یہ قسم کاروباری منصوبوں کے ذریعے سماجی یا ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔ ایف اینڈ بی انڈسٹری میں، اس میں ایک ایسا ریسٹوران بنانا شامل ہو سکتا ہے جو مقامی پائیدار فارموں سے اجزاء حاصل کرے یا خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کی کوئی پہل ہو۔

کاروباری خیالات کی تخلیق

ایک قابل عمل کاروباری خیال پیدا کرنا کاروبار کا پہلا قدم ہے۔ ایف اینڈ بی انڈسٹری میں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں:

- مارکیٹ میں موجود خلا کی نشاندہی: مارکیٹ میں غیر پوری شدہ ضروریات یا کم خدمات یافتہ طبقات تلاش کریں۔ مثال کے طور پر، صحت مند، سستی خوراک کے اختیارات کی مانگ ہو سکتی ہے یا مخصوص غذائی پائیداری کے مطابق ریسٹورانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- رجحانات سے فائدہ اٹھائیں: موجودہ خوراک کے رجحانات سے باخبر رہیں، جیسے پودوں پر مبنی غذا، پائیدار ذرائع اور جدید کھانے پکانے کی تکنیکیں۔
- برین اسٹورمنگ: برین اسٹورمنگ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف خیالات پیدا کریں، جس میں تخلیقی صلاحیت اور جدت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔
- مقابلین کا تجزیہ: F&B سیکٹر میں موجود کاروباروں کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی طاقتوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کی جاسکے، اور اپنی پیشکش کو منفرد بنانے کے مواقع تلاش کریں۔
- ذاتی تجربہ: اپنے تجربات اور جذبات سے تحریک حاصل کریں۔ اگر آپ کو کسی خاص کھانے یا منفرد کھانا پکانے کی مہارت سے محبت ہے تو اس کے گرد کاروبار بنانے پر غور کریں۔

کاروباری منصوبہ بندی اور حکمت عملی

ایک واضح کاروباری منصوبہ کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس میں شامل ہونا چاہیے:

- ایگزیکٹو خلاصہ: کاروباری تصور، مقاصد، اور حکمت عملیوں کا مختصر جائزہ۔
- کمپنی کی تفصیل: کاروبار کے بارے میں تفصیلی معلومات، بشمول اس کا مشن، وژن اور اقدار۔
- مارکیٹ تجزیہ: بدنی مارکیٹ، مقابلین اور صنعت کے رجحانات پر تحقیق۔
- مصنوعات اور خدمات: خوراک اور مشروبات کی پیشکشوں کی تفصیل، جس میں قیمتوں اور ذرائع کا تعین بھی شامل ہے۔
- مارکیٹنگ اور سیلز اسٹریٹیجی: صارفین کو متوجہ کرنے اور برقرار رکھنے کے منصوبے، بشمول برانڈنگ، اشتہارات، اور پرموشنز۔
- مینجمنٹ ٹیم: کلیدی عملے اور ان کی قابلیت کے بارے میں معلومات۔
- مالی پیش گوئیاں: آمدنی، اخراجات، اور منافع کی پیش گوئیاں۔
- آپریشنل پلان: کاروبار کے روزمرہ آپریشنز کی تفصیلات، بشمول اسٹافنگ، سپلائی چین مینجمنٹ، اور کوالٹی کنٹرول۔

فنانسنگ برنس (کاروبار کی مالی معاونت

کاروبار شروع کرنے اور بڑھانے کے لیے مناسب فنڈنگ حاصل کرنا ضروری ہے۔ عام مالیاتی اختیارات میں شامل ہیں:

- ذاتی بچت: کاروبار کی مالی معاونت کے لیے اپنی ذاتی رقم استعمال کرنا۔
- قرضے: بینکوں، کریڈٹ یونینز یا دیگر مالیاتی اداروں سے قرضے حاصل کرنا۔
- سرمایہ کار: اینجیل انویسٹرز یا ونچر کیپیٹلسٹس سے سرمایہ کاری کی تلاش۔
- گرانٹس: سرکاری اداروں یا نجی تنظیموں سے گرانٹس کے لیے درخواست دینا۔
- کراؤڈ فنڈنگ: آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں سے فنڈز اکٹھا کرنا۔

کاروباری چیلنجز اور ممکنہ حل

ایف اینڈ بی انڈسٹری میں کاروباری افراد کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے:

- شدید مقابلہ: خوراک و مشروبات کا شعبہ انتہائی مسابقتی ہے، جس کے لیے کاروباروں کو منفرد پیشکشوں، بہترین سروس اور ڈیٹا مارکیٹنگ کے ذریعے خود کو ممتاز کرنا پڑتا ہے۔

- زیادہ آپریٹنگ اخراجات: خوراک کے اخراجات، مزدوری کے اخراجات، اور کرایہ اہم اخراجات ہو سکتے ہیں۔ حل میں مؤثر انویسٹمنٹ، لاگت مؤثر سورسنگ، اور منظم آپریٹنگ شامل ہیں۔
- صارفین کی ترجیحات میں تبدیلی: صارفین کے ذوق اور ترجیحات مسلسل بدلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کاروباروں کو خود کو ڈھالنا اور جدت لانا پڑتی ہے۔
- ریگولیٹری تعمیل: خوراک و مشروبات کی صنعت خوراک کی حفاظت، حفظان صحت، اور لائسنسنگ کے حوالے سے سخت ضوابط کے تابع ہے۔
- عملے کے مسائل: اہل عملہ تلاش کرنا اور برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ حل میں مسابقتی اجرتیں پیش کرنا، تربیت اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا، اور ایک مثبت کام کا ماحول بنانا شامل ہے۔

عملی یونٹ 6.3: فضلہ کا انتظام اور وسائل کی کارکردگی

فضلہ کا انتظام اور وسائل کی کارکردگی پائیدار خوراک و مشروبات کی سرگرمیوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ حکمت عملیوں میں شامل ہیں:

- خوراک کے ضیاع کو کم کرنا: خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے اقدامات نافذ کرنا، جیسے درست پیش گوئی، مناسب ذخیرہ اندوزی اور تخلیقی میو پلاننگ۔
- کمپوسٹنگ: خوراک کے بچا ہوا سب سے اور دیگر نامیاتی فضلہ کو کمپوسٹ کرنا۔
- ری سائیکلنگ: کاغذ، پلاسٹک، اور شیشے جیسے مواد کی ری سائیکلنگ۔
- توانائی کی بچت: توانائی کی بچت کرنے والے آلات اور طریقوں کا استعمال تاکہ توانائی کی کھپت کم کی جاسکے۔
- پانی کی بچت: پانی بچانے کے اقدامات نافذ کرنا، جیسے کم ہماؤ والے نل اور مؤثر ڈش واشرز۔

عملی یونٹ 6.4: گرین سپلائی چین اور خریداری کی حکمت عملیاں

گرین سپلائی چین میں ماحولیاتی ذمہ دار سپلائرز سے مصنوعات اور خدمات حاصل کرنا شامل ہے۔ حکمت عملیوں میں شامل ہیں:

- مقامی سورسنگ: نقل و حمل کے اخراجات کم کرنے اور مقامی کمیونٹی کی حمایت کے لیے مقامی سپلائرز کو ترجیح دینا۔
- پائیدار سورسنگ: ایسے سپلائرز کا انتخاب جو پائیدار زرعی طریقے، اخلاقی محنت کے طریقے، اور ماحول دوست پیکیجنگ استعمال کرتے ہیں۔
- پیکیجنگ میں کمی: دوبارہ استعمال ہونے والے کنٹینرز اور ماحول دوست پیکیجنگ مواد کے ذریعے پیکیجنگ کے فضلے کو کم کرنا۔
- سپلائرز کے ساتھ تعاون: سپلائرز کے ساتھ مل کر ان کی ماحولیاتی کارکردگی کو بہتر بنانا۔

عملی یونٹ 6.5: گروپ ٹاسک اور اسائنمنٹ

کام: پائیدار F&B کاروبار کے لیے کاروباری منصوبہ تیار کریں۔

تفویض:

1. تصور کی ترقی: ایک مخصوص قسم کا ایف اینڈ بی کاروبار منتخب کریں (مثلاً ریسٹوران، کیفے، فوڈ ٹرک)۔ ایک منفرد تصور تیار کریں جو پائیدار طریقوں کو شامل کرے۔
2. مارکیٹ ریسرچ: مارکیٹ ریسرچ کریں تاکہ ہدف مارکیٹ، مقابلین، اور صنعت کے رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے۔
3. کاروباری منصوبہ بنانا: ایک جامع کاروباری منصوبہ بنائیں جس میں درج ذیل حصے شامل ہوں:
 - ایگزیکٹو خلاصہ
 - کمپنی کی تفصیل
 - مارکیٹ کا تجزیہ
 - مصنوعات اور خدمات (پائیدار سوسنگ اور فضلہ کم کرنے پر توجہ کے ساتھ)
 - مارکیٹنگ اور سیلز اسٹریٹیجی (کاروبار کی پائیداری کے عزم کو اجاگر کرنا)
 - مینجمنٹ ٹیم
 - مالی پیش گوئیاں
 - آپریشنل پلان (پائیدار طریقوں کی تفصیل)
4. پریزنٹیشن: حجز کے پینل کے سامنے اپنے کاروباری منصوبے کو پیش کرنے کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کریں۔

خوراک اور مشروبات کی خدمات میں ماحولیاتی مسائل

یہ دستاویز خوراک اور مشروبات (F&B) صنعت سے متعلق ماحولیاتی مسائل کا جائزہ فراہم کرتی ہے۔ یہ مختلف اقسام کے ماحولیاتی خطرات، انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر اثرات، تحفظ اور پائیداری کے طریقوں، اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا احاطہ کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ جائزہ لیتا ہے کہ F&B کے شعبے میں افراد اور کاروبار ماحولیاتی تحفظ میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں۔

ماحولیاتی مسائل کا تعارف

ماحولیاتی مسائل میں قدرتی دنیا اور انسانی فلاح و بہبود پر اثر انداز ہونے والے کئی مسائل شامل ہیں۔ یہ مسائل اکثر آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور دور رس نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

ماحولیاتی خطرے کی قسم

ماحولیاتی خطرات کی کئی اقسام خاص طور پر F&B صنعت کے لیے اہم ہیں:

- آلودگی: اس میں نقل و حمل اور توانائی کے استعمال سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی، غلط فضلہ ٹھکانے لگانے اور زرعی ہماؤ سے پانی کی آلودگی، اور کیزے مار ادویات اور صنعتی سرگرمیوں سے مٹی کی آلودگی شامل ہے۔ خوراک و مشروبات کی سرگرمیاں خوراک کی پیداوار، پروسیسنگ، پیکجنگ اور نقل و حمل کے ذریعے آلودگی میں اضافہ کرتی ہیں۔
- فضلہ پیدا کرنا: ایف اینڈ بی صنعت فضلہ پیدا کرنے والی ایک اہم کمپنی ہے، جس میں خوراک کا فضلہ، پیکجنگ مواد، اور ایک بار استعمال ہونے والی اشیاء شامل ہیں۔ غلط فضلہ انتظام لینڈفل کے ہماؤ، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج، اور آلودگی کا باعث بن سکتا ہے۔
- وسائل کی کمی: یہ صنعت قدرتی وسائل جیسے پانی، توانائی، اور خام مال پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ ان وسائل کا غیر پائیدار استعمال کمی اور ماحولیاتی بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔
- جنگلات کی کٹائی: زراعت، خاص طور پر مویشی پالنا اور کچھ فصلوں کی کاشت، جنگلات کی کٹائی میں حصہ ڈال سکتی ہے، جس سے مسکن کا نقصان، حیاتیاتی تنوع میں کمی، اور موسمیاتی تبدیلی آتی ہے۔
- حیاتیاتی تنوع کا نقصان: مسکن کی تباہی، آلودگی، اور موسمیاتی تبدیلی سب حیاتیاتی تنوع کے نقصان میں حصہ ڈال سکتے ہیں، جو ماحولیاتی نظام کی استحکام اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔

انسانی سرگرمیوں کا ماحول پر اثر

انسانی سرگرمیاں، خاص طور پر صنعتی ترقی، زراعت، اور کھپت سے متعلق سرگرمیاں، ماحول پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ خوراک و مشروبات کی صنعت ان اثرات میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے:

- گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج: خوراک کی پیداوار، پراسیسنگ، نقل و حمل، اور فضلہ تلف کرنے کی تمام اقسام گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں حصہ ڈالتی ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کو بڑھاتی ہیں۔ خاص طور پر مویشی پالنا میتھین کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو ایک طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے۔
- پانی کی کمی: زراعت پانی کا بڑا صارف ہے، اور غیر پائیدار آبپاشی کے طریقے پانی کی کمی اور آبی ذخائر کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خوراک و مشروبات کی صنعت پانی کو پروسیسنگ، صفائی، اور صفائی کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔
- زمین کی خرابی: شدید زراعت مٹی کے کٹاؤ، غذائی اجزاء کی کمی، اور مٹی کی زرخیزی کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور زیادہ چرائی بھی زمین کی خرابی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔
- مسکن کی تباہی: زرعی توسیع اور انفراسٹرکچر کی ترقی مسکن کی تباہی اور نکلزوں میں بکھراؤ کا باعث بن سکتی ہے، جو حیاتیاتی تنوع کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
- آلودگی: صنعتی اور زرعی سرگرمیاں ہوا، پانی، اور مٹی میں آلودگی خارج کرتی ہیں، جو انسانی صحت اور ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچاتی ہیں۔

تحفظ اور پائیداری

تحفظ اور پائیداری انسانی سرگرمیوں کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور سیارے کی طویل مدتی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔

- تحفظ: قدرتی ماحول اور ان میں رہنے والی ماحولیاتی کمیونٹیز کے تحفظ، تحفظ، انتظام یا بحالی کو کہا جاتا ہے۔ F&B کے سیاق و سباق میں، اس میں پائیدار انتظام شدہ فارموں سے اجزاء حاصل کرنا یا خوراک کی پیداوار سے متاثرہ علاقوں میں تحفظ کی کوششوں کی حتمیت شامل ہو سکتی ہے۔
- پائیداری: موجودہ ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دیتا ہے بغیر اس کے کہ آنے والی نسلوں کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا جائے۔ F&B صنعت میں، پائیداری میں ایسے طریقے اپنانا شامل ہیں جو ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کریں، سماجی مساوات کو فروغ دیں، اور معاشی پائیداری کو یقینی بنائیں۔

F&B صنعت میں اہم پائیداری کے طریقے شامل ہیں:

- خوراک کے ضیاع کو کم کرنا: سپلائی چین کے تمام مراحل میں، پیداوار سے لے کر کھپت تک، خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کی حکمت عملیوں پر عملدرآمد کرنا۔
- پائیدار پیکجنگ کا استعمال: ایسے پیکجنگ مواد کا انتخاب جو ری سائیکل ہونے والے، کمپوسٹ ایبل یا باؤڈیکریٹیبیل ہوں۔
- پانی اور توانائی کی بچت: خوراک و مشروبات کے آپریشنز میں پانی اور توانائی کی بچت کے اقدامات کا نفاذ۔
- پائیدار اجزاء کی تلاش: فارموں اور سپلائرز سے اجزاء کو ترجیح دینا، جو پائیدار طریقے اپناتے ہیں۔
- پودوں پر مبنی غذاؤں کو فروغ دینا: پودوں پر مبنی غذاؤں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا، جن کا ماحولیاتی اثر عام طور پر جانوروں پر مبنی غذاؤں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔

موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات

موسمیاتی تبدیلی آج دنیا کو درپیش سب سے اہم ماحولیاتی چیلنجز میں سے ایک ہے۔ یہ انسانی سرگرمیوں سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو فضا میں حرارت کو قید کر لیتے ہیں اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔

موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پہلے ہی دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں، جن میں شامل ہیں:

- درجہ حرارت میں اضافہ: عالمی اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی لہریں زیادہ بار اور شدید ہو رہی ہیں۔
- بارش کے پیٹرن میں تبدیلیاں: کچھ علاقے زیادہ خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ کچھ میں زیادہ سیلاب آرہے ہیں۔
- سمندر کی سطح میں اضافہ: پگھلتے ہوئے گلیشیئرز اور برفانی چادریں سمندر کی سطح کو بلند کر رہی ہیں، جو ساحلی کمیونٹیز کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
- انتہائی موسمی واقعات: موسمیاتی تبدیلی شدید موسمی واقعات جیسے طوفانوں، سائیکلونز، اور جنگلاتی آگوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔
- زراعت پر اثرات: درجہ حرارت اور بارش کے پیٹرن میں تبدیلیاں فصلوں کی پیداوار اور مویشیوں کی پیداوار کو متاثر کر رہی ہیں۔

ایف اینڈ بی انڈسٹری موسمیاتی تبدیلی میں معاون اور متاثرہ دونوں ہے۔ یہ اپنے آپریٹرز کے ذریعے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں حصہ ڈالتا ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے زرعی اور غذائی تحفظ پر اثرات کے لیے بھی حساس ہے۔

خوراک اور مشروبات کی خدمات میں ماحولیاتی تحفظ میں کیسے حصہ ڈالا جائے

خوراک و مشروبات کی صنعت ماحولیاتی تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے اس شعبے میں افراد اور کاروبار اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں:

- خوراک کے ضیاع کو کم کریں: سپلائی چین کے تمام مراحل پر خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی نافذ کریں، چاہے وہ خریداری اور ذخیرہ ہو یا تیاری اور سروس۔ اضافی خوراک فوڈ بینکس یا خیراتی اداروں کو عطیہ کریں۔ کمپوسٹ فوڈ کے باقیات اور دیگر نامیاتی فضلہ۔
- پائیدار پیکیجنگ استعمال کریں: ایسے پیکیجنگ مواد پر جائیں جو ری سائیکل ہونے والے، کمپوسٹ ایبل یا بائیو ڈیگرید ایبل ہوں۔ سٹیکل یوز پلاسٹک کے استعمال کو کم کریں۔ گاہکوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے دوبارہ استعمال ہونے والے کنٹینرز اور بیگز ساتھ لائیں۔
- پانی اور توانائی کی بچت کریں: پانی کی بچت کرنے والے فلکچر اور آلات نصب کریں۔ توانائی کی بچت کرنے والے لائٹنگ اور ہیٹنگ سسٹمز نافذ کریں۔ عملے کو پانی اور توانائی کے تحفظ کے طریقوں کی تربیت دیں۔
- پائیدار اجزاء کا ذریعہ: ان فارموں اور سپلائرز کے اجزاء کو ترجیح دیں جو پائیدار طریقے اپناتے ہیں، جیسے نامیاتی کاشتکاری، تجدیدی زراعت، اور فیئر ٹریڈ۔ مقامی کسانوں اور پیدا کرنے والوں کی حمایت کریں۔
- پودوں پر مبنی غذاؤں کو فروغ دیں: مینو پر زیادہ پودوں پر مبنی اختیارات پیش کریں۔ صارفین کو پودوں پر مبنی غذاؤں کے ماحولیاتی فوائد کے بارے میں آگاہ کریں۔
- ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کم کریں: مقامی طور پر اجزاء حاصل کریں تاکہ نقل و حمل کے فاصلے کم کیے جاسکیں۔ ڈیلیوری کے لیے ایندھن بچانے والی گاڑیاں استعمال کریں۔ گاہکوں کو پیدل چلنے، سائیکل چلنے یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ترغیب دیں۔
- مناسب فضلہ انتظام: ایک جامع فضلہ انتظامی پروگرام نافذ کریں جس میں ری سائیکلنگ، کمپوسٹنگ اور خطرناک فضلے کی مناسب تلافی شامل ہو۔
- تعلیم اور مشغول: عملے اور صارفین کو ماحولیاتی مسائل اور پائیداری کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ ماحولیاتی شعور کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ مشغول ہوں۔
- ماحولیاتی تنظیموں کی حمایت: ماحولیاتی تنظیموں کو عطیہ دیں یا ان کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دیں جو ماحول کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔
- ماحولیاتی سرٹیفیکیشن حاصل کریں: پائیداری کے لیے عزم ظاہر کرنے کے لیے LEED، گرین سیل، یا بی کارپ جیسے ماحولیاتی سرٹیفیکیشن حاصل کریں۔

ان طریقوں کو اپنانے سے، خوراک و مشروبات کی صنعت اپنے ماحولیاتی اثرات کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے اور ایک زیادہ پائیدار مستقبل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔

2 (خبر پختونخوا دیہی معاشی تبدیلی منصوبہ) جزو

کلاس روم SECAP ایولوشن چیک لسٹ

مقصد:

اس بات کو یقینی بنانا کہ KP-RETP کے تحت کلاس روم پر مبنی مہارتوں اور کاروباری تربیت کو ماحول دوست طور پر محفوظ، سماجی طور پر شامل کرنے والا، اور موسمیاتی طور پر لچکدار انداز میں منعقد کیا جائے، جو سماجی، ماحولیاتی، اور موسمیاتی تشخیصی طریقہ کار (SECAP) کے مطابق ہو۔

جائزہ لینے والا:

ٹریڈنگ سینیٹر / مقام:

ٹریڈر:

تاریخ:

زمرہ	لشخیصی پوائنٹس	پایہ		تبصرے / سفارش
		ہاں	نہیں	
حفاظتی سماجی اقدامات	کیا تربیت شامل ہے (خواتین، نوجوانوں اور کمزور گروہوں کے لیے مساوی رسائی)؟			
	کیا کلاس روم کا ماحول تمام شرکاء کے لیے حفاظت اور وقار کو یقینی بناتا ہے (کوئی ہراسانی، امتیاز، یا بچوں کی مزدوری نہیں)؟			
	کیا صنفی پہلوؤں کو مثالوں، مباحثوں، اور مواد میں شامل کیا جاتا ہے؟			
	کیا شکایتی ازالہ میکانزم (GRM) کا عمل، متعلقہ رابطہ نمبر، کلاس روم میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے			
	کیا سہولیات اور سرگرمیاں خاص طور پر معذور افراد (معذور افراد) کے لیے قابل رسائی اور شامل کرنے والی ہیں؟			
حفاظتی ماحولیاتی اقدامات	کیا کلاس روم صاف، ہوا دار اور آلودگی یا خطرناک مواد سے پاک ہے؟			
	کیا فضلہ کا مناسب انتظام ہے (ڈبے، کوئی کچرا نہیں)			

	<p>کیا عملی سیشنز میں استعمال ہونے والے مواد ماحول دوست ہیں (غیر زہریلے رنگ، فضلہ کو محفوظ طریقے سے تلف کرنا)؟</p>			
	<p>کیا لائٹس، پنکھے، اور آلات استعمال میں نہ ہونے پر بند ہوتے ہیں (توانائی کی بچت)؟</p>			
موسمیاتی مزاحمت	<p>کیا تربیت حاصل کرنے والوں کو اس بات پر رہنمائی دی جاتی ہے کہ ان کی مہارتیں موسمیاتی دوست طریقوں (مثلاً قابل تجدید توانائی، موثر پیداوار، ری سائیکلنگ) سے کیسے جڑی ہوئی ہیں؟</p>			
	<p>کیا ٹرینرز تدریسی مواد میں موسمیاتی ذہانت سے متعلق مثالیں شامل کر رہے ہیں؟</p>			
	<p>کیا بنیادی صحت اور حفاظتی اقدامات دستیاب ہیں (فرسٹ ایڈ کٹ، محفوظ راستے، آگ سے حفاظت)؟</p>			
	<p>کیا ٹرینرز حفاظتی سامان استعمال کر رہا ہے یا محفوظ اوزار کے استعمال کا مظاہرہ کر رہا ہے (جہاں متعلقہ ہو)؟</p>			
ادارہ جاتی پہلو	<p>کیا SECAP کی آگاہی تربیت حاصل کرنے والوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے (مختصر بریفنگ، پوسٹرز یا مثالوں کے ذریعے)؟</p>			
	<p>کیا تربیت حاصل کرنے والوں کو غیر محفوظ، غیر منصفانہ، یا ماحولیاتی نقصان دہ طریقوں کی اطلاع دینے کی ترغیب دی جاتی ہے؟</p>			

مجموعی تعمیل	مجموعی طور پر SECAP کی تعمیل مشاہدہ کی گئی	ہائی <input type="checkbox"/> میڈیم <input type="checkbox"/> چھوٹا <input type="checkbox"/>	
--------------	--	---	--

مجموعی تبصرے / سفارشات			
تاریخ	دستخط	اسم	نام